

تذکرہ شیخ الاسلام  
حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی

مفتکر اسلام  
حضرت مولانا سید الجلیل الحسین بن علی حسین نادری



تو تیپ و پیش مکش  
سید محمود حنفی مدوفی



سیدالجمل شیخ الاسلامی  
دارعرفات، تکیریکلاں، رائے بریلی

## جلیل حقوق مخنوظ

طبع اول

رمضان المبارک ۱۴۲۳ھ مطابق جولن ۲۰۱۶ء

**سید احمد شہید اکیڈمی**

دارعرفات تکمیل کالا رائے بریلی

نام کتاب	:	تذکرہ شیخ الاسلام
حضرت مولانا سید حسین احمد عدی	:	
مصنف	:	مفتکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی
ترتیب و پیش کش	:	سید محمود حسن حنفی ندوی
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
صفات	:	۱۶۰
کپوٹ نگار	:	عرفات کپیوٹر سینٹر (محarragan بدلیوی ندوی)
قیمت	:	Rs.100/-

ملئے کے پتے :

☆ ایم ایم پیک ڈپو، مدرسہ ضیاء العلم، رائے بریلی

☆ مجلس تحقیقات و تحریرات اسلام، ندوۃ العلماء،

☆ مکتبہ اسلام، گون روڈ، لکھنؤ

☆ مکتبہ الشاہاب العلمیہ، ندوہ روڈ، لکھنؤ

بایہتمام: مجذب شیخ خاں ندوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## فہرست

۹	عرض ناشر .....
۱۱	مقدمہ از حضرت مولانا سید محمد راجح حنفی ندوی دامت برکاتہم .....
۱۶	تقریظ از جناب مولانا سید محمد واضح رشید حنفی ندوی مدظلہ .....
۲۲	عرض مرتب .....
۲۶	مولانا حسین احمد فیض آبادی از مولانا سید عبدالجی حنفی .....

### ﴿ باب اول ﴾

#### شخصیت کے تشكیلی عنصر اور علمی و روحانی سلسلے

۳۵	ولی الٰہی درسگاہ سے اشتاسب اور اجازت حدیث .....
۳۷	دارالعلوم دیوبند .....
۳۹	دارالعلوم دیوبند کا پیغام اور اقیاز .....
۴۰	سلسلہ قادریہ راشدیہ اور اس میں اجازت و خلافت .....
۴۲	سلسلہ چشتیہ اور اس سے اشتاسب .....
۴۶	سلسلہ احمدیہ (آدمیہ مجددیہ ٹھٹھبندیہ) سے اشتاسب و اجازت .....

۳۹ .....	حضرت سید احمد شہیدؒ کے طریقہ و سلسلہ سے واپسی
۵۱ .....	حضرت سید صاحبؒ کی طرف مشائخ و علماء کا رجوع
۵۲ .....	شیخ و مرشد حضرت مولانا شید احمد گنگوہیؒ
۵۵ .....	استاد و مردی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ

## باب دوم

### جامعیت، علمی رسوخ، تعلیم و ارشاد اور قائدانہ کردار

۵۸ .....	پہلا تعارف
۵۹ .....	برادر معظم مولانا داکٹر عبدالحی حسینؒ کا تعلق
۶۱ .....	مولانا کی خدمت میں میری حاضری اور دیوبند کا قیام
۶۳ .....	ایک بڑا فائدہ اور برکت
۶۴ .....	دائرہ شاہ عالم اللہ رائے بریلی اور جائس و نصیر آباد کا ایک سفر اور میری رفاقت
۶۵ .....	ایک ہنگامہ خیز دور
۶۷ .....	۱۹۳۱ء کا انقلاب
۶۸ .....	دینی چمیت و غیرت اور جرأت و عزیمت
۷۰ .....	جامعیت اور علمی رسوخ
۷۱ .....	مسلسل جدوجہد اور سرتاپاقربانی زندگی
۷۲ .....	علمی مذاق اور رحمانیا شد کردار
۷۳ .....	اتا ترک کے بارے میں حقیقت حال کا اظہار اور مولانا دیوبندیؒ کی حق پسندی

## ﴿ باب سوم ﴾

### انسانی و اخلاقی بلندی اور استقامت و شجاعت

۷۶.....	انسانی حقیقت و شخصیت
۷۷.....	حقیقی آدمی
۷۹.....	انسانی شخصیت
۸۰.....	انسانی بلندی کے معیار
۸۵.....	حضرت مدینی کا مقام
۸۸.....	اخلاقی بلندی اور شخصیت کی دلاؤزی
۹۱.....	حالی حوصلگی اور وسیع النظر فی
۹۲.....	ائکار نہس اور تواضع
۹۳.....	اخلاق و انسانیت کا خسارہ

## ﴿ باب چہارم ﴾

### اوصاف و خصوصیات، احتیازات و کمالات

۹۴.....	مجید و امداد عزیمت و بصیرت
۹۵.....	محیا پرده و استقامت
۹۶.....	عنفو و درگزر
۹۷.....	حق پسندی
۹۸.....	خور و نوازی
۹۹.....	علمی کامول میں تعاون

۹۹ .....	سرما یہ ملکت اور ملی شخص کے تحفظ کی کوشش
۱۰۰ .....	ذکر .....
۱۰۰ .....	رمضان کا اہتمام .....

## ﴿ باب پنجم ﴾

### مجاہد ائمہ کا رنائے

۱۰۲ .....	اللغاظ و اوصاف کا درجہ حرارت .....
۱۰۳ .....	جمیت و عزیت کا استعمال .....
۱۰۴ .....	جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار .....
۱۰۵ .....	خلافتِ اسلامیہ اور سلطنتِ عثمانیہ .....
۱۰۶ .....	انقلابِ انگریز پر بیان .....
۱۰۷ .....	تاریخی المیہ .....
۱۰۸ .....	تحریک خلافت کا مظہر امام .....
۱۰۹ .....	بر طانیہ کی سرپرستی .....
۱۱۰ .....	اطہارِ حقیقت .....
۱۱۱ .....	امتِ اسلام پر دوار ہے پر .....

## ﴿ باب ششم ﴾

### عظمیم قائد اور عظیم مرشد و مردی

۱۱۲ .....	سب سے نایاب اور مشکل کام .....
۱۱۳ .....	جنگ آزادی کے عظیم قائد اور عظیم دینی رہنماء .....

۱۲۱	شخصیت کے کچھ پوشیدہ گو شے
۱۲۲	اخلاص و تہذیت
۱۲۵	عالی حوصلگی اور عزیت
۱۲۶	دینی انہاک و دینی صروفیت میں صاحب کرامات شخصیت
۱۲۷	نیشن آدمیت
۱۲۸	و سعت افلاک میں بکیر مسلسل
۱۲۹	عصمت، انعام کے ساتھ خاص ہے
۱۳۰	جذبہ تشكیر اور حمیت دینی
۱۳۱	عزم و استقلال اور ثبات و استقامت
۱۳۱	فیوض و برکات کا لاقناہی سلسلہ
۱۳۱	ٹی احساسات اور درود و سوز
۱۳۲	آخری ایام
۱۳۳	پشاشت اور خوش رواجی
۱۳۴	امت محمدی سے تعلق

### ﴿ باب ہفتہ ﴾

۱۳۲	معاصر علماء و مشائخ کا تعلق، عقیدت و احترام اور ممتاز اصحاب علم و فضل کا تعلق، بیعت و ارادت حضرت مولانا اشرف علی قہانویؒ
۱۳۵	مولانا شیر احمد عثمانیؒ

۱۳۵	مولانا ابوالحسن محمد سجاد بہاریؒ
۱۳۶	مولانا احمد علی لاہوریؒ
۱۳۶	مولانا ابوالکلام آزادؒ
۱۳۷	مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی و عومنیؒ
۱۳۹	مولانا عبدالشکر فاروقی لکھنؤیؒ
۱۴۰	حضرت مولانا عبدالقدور رائے پوریؒ
۱۴۲	شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کانڈھلویؒ
۱۴۴	مولانا شاہ محمد یعقوب مجردی بھوپالیؒ
۱۴۶	مولانا سید طلحہ حسینیؒ

### امتاز اصحاب علم و فضل کا تعليق بیعت واردات

۱۴۸	مولانا عبدالباری ندویؒ، مولانا عبدالمadjد دریابادیؒ اور ڈاکٹر سید عبدالعلی حسینیؒ ...
۱۵۰	مولانا محمد اویس گرامی ندویؒ
۱۵۱	مولانا شیم احمد فریدی امرودھویؒ

### ﴿ ختمیہ ﴾

۱۵۲	شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدینیؒ سوائی خاکہ: حضرت شاہ سید قیس اصیفی صاحب علیہ الرحمہ
-----	---

## عرض ناشر

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدفی رحمۃ اللہ علیہ ان اصحاب عزیمت بزرگوں میں سے تھے جن کی زندگی علماء منتظر میں کامنوتہ تھی، جس طرح جام شریعت اور سنداں عشق کو انہوں نے جمع کیا اسی طرح علم و دعوت کا ایسا واؤ اتنہ انہوں نے تیار کیا جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو گرم کیا، تحقیق و تدریس کے ساتھ ملت اسلامیہ ہندیہ کی قیادت کا جو کام انہوں نے انجام دیا، وہ اسلامیان ہند کی تاریخ کا ایک سنہرہ باب ہے اور اس راستے میں جس قربانی و مجاہدہ اور انہائی عزیمت کی راہ انہوں نے اپنائی وہ ایک مثال ہے۔

حضرت مدفی رحمۃ اللہ علیہ سے اہل ندوہ کا گھر اتعلق رہا ہے، مولانا عبدالباری ندویؒ، مولانا عبدالماجد دریابادیؒ کا تعلق بیت حضرت مدفی سے ہی تاکم ہوا، اور رام سطور کے والد مولانا حکیم و اکثر سید عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت مدفی سے ہی بیعت کی، ان کے علاوہ گھر کے متعدد افراد تھے جن کا حضرت مدفی رحمۃ اللہ علیہ سے گھر اتعلق تھا، حضرت جب بھی لکھتو تشریف لاتے تو ڈاکٹر صاحب کے گھر ہی میں قیام فرماتے، بھی وجہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے فرزند اور رام کے والد ماجد مولانا سید محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدفی کی سوانح قلمبند کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، جو اس سے پہلے حضرت شاہ علم اللہ حشی اور حضرت مولانا محمد علی موتگیری بانی ندوۃ العلماء کی سوانح مرتب کرچکے تھے، لیکن یہ کام بالکل ابتدائی شکل ہی میں تھا کہ وہ مختصر علالت کے بعد

صرف چوالیں سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

اس گنگہگار کے لیے کئی حیثیتوں سے یہ سعادت کی بات ہے کہ تذکرہ مدینی کے نام سے یہ کتاب قارئین کے سامنے ہے، ایک تو یہ ایک عظیم مجاہد اور صاحب عزیمت شخصیت کی سوانح ہے، دوسرا یہ کہ یہ ال خاندان کے شیخ کا تذکرہ ہے، اور تیسرا یہ کہ والد صاحب جو کام کامل نہیں کر سکے اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔

یہ حقیقت میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان مضمائیں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے حضرت مدینی سے متعلق تحریر فرمائے، جن کو خواہبر زادہ عزیز مولوی سید محمود حسن حشی ندوی سلمہ اللہ نے بڑی عرق ریزی سے جمع کیا، حضرت کی تحریروں میں جہاں کہیں بھی انہیں حضرت مدینی کا تذکرہ مل گیا انہوں نے بڑے سلیقہ سے اس کو کتاب کا جز بنادیا، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے، کتاب کے آغاز میں عم مخدوم و معظم حضرت مولانا سید محمد راجح حسن ندوی دامت برکاتہم اور عم معظم مولانا سید محمد واصح رشید حشی ندوی مدظلہ کے مقدمات بجا ہے خود بہت مفید و معلومات افزائشی تاثراتی مضمائیں ہیں، اس طرح یہ مفید مجموعہ ناظرین کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مفید تر بنائے۔

پلال عبدالحی حشی ندوی

بروز شنبہ ۲۰ / رب جمادی ۱۴۳۷ھ

مرکز الامام أبي الحسن الندوی

## مقدمة

حضرت مولانا سید محمد راجح حسینی تدوی و امتحان بر کا ٹھم  
 (نا ظم تدوینہ العلماء و صدر آل ائمہ اسلام پر غل لایورڈ)

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين  
 ونخاتم النبئين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعداً  
 بر صغيرہندوپاک عالم اسلامی کا ایک وسیع اور اہم خصوصیات کا حامل حصہ ہے،  
 یہاں کے مسلمانوں میں بڑی عظیم المرتبت بلکہ تاریخ ساز شخصیتیں پیدا ہوئیں، جنہوں  
 نے اپنے اپنے عہد میں اور بعض بعض نے اس سے وسیع تر وارثہ میں حالات پر اثر  
 ڈالا، اس نظر ارضی پر مسلمانوں کی طویل حکومت کے بعد گذشتہ دو صدیوں میں  
 سامراجی اقتدار نے اپنے قدم جمالیے تھے، اور اس کے اثر سے حالات کارخ اسلام  
 اور مسلمانوں کے لیے نہایت تاریک ترین ہو گیا تھا، اس اقتدار کو ختم کرنے اور ہاتھ  
 بنانے کے لیے جن علمائے عظام نے اپنی فکر و کوشش صرف کی اور حالات پر اثر ڈالا ان  
 میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدھی کی شخصیت کا نمایاں حصہ رہا، یہ وہ  
 عظیم ترین شخصیت تھی جو گذشتہ صدی کے عظیم المرتبت علماء میں تھے، اور علمی و دینی اور  
 عملی حیثیت سے جامع شخصیت تھے، ایک طرف علوم دینیہ خاص طور پر حدیث شریف  
 میں وسری طرف دینی لحاظ سے تقوی و ورع اور تربیت و ارشاد کا عظیم مرتبہ رکھتے تھے،

اور تیسرا طرف ملت اسلامیہ کے قومی وطنی مفاہوات کی فکر کرنے والے اور اس کے لیے اپنی راحت و ہمولات کو قربان کر دینے والے تھے، ان کی پیدائش مشرقی یوپی چلخ فیض آباد میں ہوئی، اور نشوونما کا ابتدائی وقت وہیں گذرتا، ان کے والد بزرگوار مولانا سید حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمن گنج مرآدا بادی سے استرشاد کا تعلق رکھتے تھے، وہ اور ان کا خاندان کئی صد یوں سے ٹاثڑہ کی بستی میں متقطن تھا، یہ خاندان سادات حسینیہ کی شاخ تھا، اور انہا ازا آج سے چار پانچ سو سال پہلے ہندوستان آیا تھا، اس کے مورث مولانا شاہ نور الحسن اپنے وقت کے بڑے بزرگ گذرے ہیں، ان کے بعد بھی خاندان میں بزرگی کا سلسلہ عرصہ تک قائم رہا۔

حضرت مولانا کے والد بزرگوار حالات کے تقاضے سے یہاں سے جائز تعلق ہو گئے تھے، چنانچہ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب دارالعلوم دیوبند تعلیم حاصل کرنے سے فراغت پر وہیں تعلق ہو گئے، اور مدینہ منورہ میں قیام ہوا، وہاں درس و تدریس کا بھی مشغله رہا، لیکن دارالعلوم دیوبند کی تعلیم کے زمانہ میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کی جو شاگردی اور روحانی تربیت حاصل ہوئی تھی اس کی بناء پر ان سے براہ راست ربط قائم رہا، اور ان کی سیاسی چدو چہد میں جو برصیر کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے تھی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ بھی بحیثیت معاون شریک رہے، اور اس عمل کو رضاۓ الہی کی طلب کے ساتھ انجام دینے لگے، اور اس عمل میں وہ اپنے استاذ و مرشد کے ساتھ شریک اور ایسے وابستہ رہے کہ ان کے بعد سیاسی چدو چہد کے زمانہ میں جو انگریزی سامراج کے خلاف تھی انگریزوں نے ان کو اپنے مرشد اور بعض رفقاء کے ساتھ کئی سال ماٹاٹیں قید رکھا، وہ اپنے شیخ کے ساتھ رہے، اور ان کی صحبت سے بھی فائدہ اٹھاتے رہے، دارالعلوم دیوبند میں شیخ وقت حضرت مولانا ارشید احمد گنگوہ تھی جو کہ دارالعلوم دیوبند کے سربراہ و سرپرست تھے، اور اپنے زمانہ کے بڑے مرشد اور عظیم المرتبت علماء میں تھے، ان سے بھی استفادہ کا تعلق

رکھا، اور ان کا اعتماد بھی حاصل کیا، حضرت مولانا گنگوہیؒ ان کے استاد و شیخ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندیؒ کے بھی مرتب و مشغیر تھے، ان کے علاوہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے اور خواص و عوام کا ان کی طرف رجوع تھا۔ بھی مکہ معظمہ میں قیام کے دوران ارشاد دینی کا فائدہ حاصل کیا، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سید انور شاہ صاحب کشیریؒ کے دارالعلوم دیوبند سے مدرسہ تعلیم الدین ڈا جہل منتقل ہو جانے پر ان کی جگہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور اس کے ساتھ پوری زندگی حدیث شریف کی تعلیم اور ملک کو سما راجی طاقت سے آزاد کرنے اور مستر شدین کی تربیت اور ارشاد کے کام میں گزار دی اور جس اخلاص اور رضاۓ الہی کی طلب کے ساتھ یہ سب کام انجام دیئے ان کی بناء پر مسلمانان ہند کے دلوں پر اور علوم دینیہ کی خدمت کرنے والوں کے درمیان بڑی عزت اور عظمت کا مقام حاصل کیا، اور آزادی وطن کے لیے جو جدوجہد کی اور اس کے لیے بار بار جیل جانا ہوا، جیل کی تکفیں برداشت کیں، اس میں چہاد کی نیت اور چہاد ہی کا جذبہ کا رفرما تھا، جس کی قدر سب صالح اور ربیاني نقوص کے دلوں میں رہی، اور خود ان کے مشتبین اور مستر شدین کی ایک تعداد کو بڑا فائدہ پہنچا، اور ملت اسلامیہ کی قومی مشکلات میں پڑے سہارا بنتے، اور چونکہ تعلیم سے فراغت پر مدنی نسبت ان کے نام کے ساتھ واپسی ہو گئی تھی اور اس نسبت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا تھا، ان کو اگرچہ رضیر کی می و دینی ضرورت کے لیے ہندوستان آنا پڑا لیکن وہاں کے قیام کے اثراً اور اس کی نسبت کے برکات ان کو حاصل رہے، اور اپنی مختلف طیٰ جدوجہد اور ارشاد و تربیت کی خوبیوں کی وجہ سے ”شیخ الاسلام“ کا خطاب ان کو قدر دانوں کی طرف سے ملا، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدین علوم دینیہ میں بلند پایہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور ربیانیت اور اپنی سنت اور جذبہ چہاد کی ایسی خوبیوں کے حوال تھے کہ ان کو

جو بھی دیکھتا ان کا گروہہ ہو جاتا اور ان کی محبت اپنے دل میں محسوس کرتا، اور ان کو ملت کا بیش بہا قائد تصور کرتا، ان کی ذات بر صیر کی ملت اسلامیہ کے لیے بہت اثر پذیر اور دلوں کی تقویت کا باعث رہی، چنانچہ ان کی وفات پر ہلاخسارہ اور خلاء محسوس کیا گیا، ان کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ نسلوں کے سامنے جو خصوصیات اور کارناں سے سامنے لانے کی ضرورت ہے، خود ان کی کتاب "نقش حیات" سے ایسی باقی معلوم ہوتی ہیں اور بھی ستائیں لکھی گئیں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے خاص ربط تھا اور عقیدت تھی، اور دیوبند چاکری ماہانیہ کے بیہاں قیام رہا، ان کے درس حدیث سے استفادہ کرنے کا موقع بھی ملا تھا، چنانچہ مولانا نے ان کے بارے میں مختلف حیثیتوں سے جواہر کیا ہے اس سے بھی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی کی شخصیت پر اچھی روشنی پڑتی ہے، برادرزادہ عزیز مولوی سید بلال عبدالحی حنفی ندوی نے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حنفی ندوی کی اس سلسلہ کی مختلف تحریریوں کو بیکھا کر کے شائع کرنے کی ضرورت محسوس کی، ان کی نگرانی میں عزیزی مولوی سید محمود حسن حنفی ندوی نے اس کو بڑے ایجھے انداز میں بعض دیگر متعلقات کے ساتھ تیار کر دیا، اور اس اشاعت سے پہلے مجھ سے مقدمہ کی فرمائش کی۔

حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ کو میں نے بار بار دیکھا اور ان کی خدمت میں بار بار حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور میرے دل میں بھی دیگر معتقدین کی طرح ان کی بڑی حظمت ہے۔

جیسا کہ گذشتہ سطروں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ان کی شخصیت ایک عظیم دینی مرغی و روحانی مرشد اور اس کے ساتھ ایک عظیم قائد اور ملی رہنمای اور پھر ہمتاز عالم و معلم دین اور داعی کی بھی تھی، اور ان کی ان تینوں حیثیتوں کو مجھے قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے کہ میرے خاندان کے اکثر لوگ میرے پڑے ماہوں مولانا ڈاکٹر سید عبدالحی حنفی صاحب مرحوم، اور نانی صاحبہ (والدہ مولانا سید

ابوالحسن علی ندوی) اور خالہ صاحب سیدہ امۃ اللہ تسلیم مرحومہ وغیرہ اور دوسرے حضرات کا ان سے بیعت و اصلاح کا تعلق تھا، اور لکھتوں میں ان کا قیام میرے بڑے مامول مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی حسینی صاحب مرحوم کے مکان پر ہوا کرتا تھا، اور ہم لوگوں کو خدمت کی سعادت حاصل ہوتی تھی، دن میں لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات میں ان کی دینی پچشی اور رات کی تہائیوں میں ان کے تعلق مع اللہ، آہ سحر گاہی، دعائے شیم شی، سوزو، گداز، الحاج و تصرع کو قریب سے دیکھا، اور پھر جس زمانہ میں دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور ملک کی تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی، دارالحدیث ان کے درس حدیث سے گونج رہا تھا، اگرچہ میں اس درجہ میں نہیں تھا، اس درجہ کی تیاری کے درجہ میں تھا اور پھر تقسیم کے بعد ملک کے حالات بگڑ جانے کی وجہ سے دوبارہ دیوبند حاضر نہیں ہو سکا، لیکن اس میں بھی ان کے مقام بلند کا ایک اندازہ ہو چکا تھا، اور ان کے فائدہ مقام و کردار اور اس میں ان کی بصیرت و فراست اور تحمل و عزمیت اور پہلو و خدمت کا جہاں ان کے رفقائے چہادریت کو احساس و اعتراف تھا و سر بنے بھی ان کے انتیاز کو سمجھتے اور جانتے تھے، اور ملک کی تقسیم کے بعد ۱۹۷۸ء میں ان کی صدارت میں لکھتوں میں پڑا جلاس منعقد ہوا تھا، وقت ہم لوگ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے آخری درجات میں تھے، وہ مسلمانوں میں حوصلہ بلند کرنے اور نئے حالات میں ان کو لائجہ عمل دیتے تھے، بدامفید اجلاس تھا، پیش نظر کتاب ان کی ان تینوں جیشتوں کو پیش کرتی ہے، جو یقیناً ایک رہنمای کتاب ثابت ہو گی، اور مختلف میدان عمل میں کام کرنے والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لہذا ان کے سلسلہ میں مقدمہ لکھنے کو میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، جس کی تعلیم ان چند سطروں کے ذریعہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آئیں۔

محمد رابع حسینی ندوی

دائرۃ شاہ طهم اللہ عاصی تکمیل کلاں

رانے بریلی

سبت ۲۷ / ربیع بیان ۱۴۳۳ھ

۷ / جنی ۱۷۰۲ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## لُقْرِيْطٌ

جَنَابُ مَوْلَانَا سَيِّدُ الْمُحَمَّدِ وَشَیْخُ رَشِيدِ حَسْنِی نَدوی مَدْظُولَہ

(معتمد تعلیم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعدها  
ہندوستان میں انگریزی سامراج کا زمانہ خصوصاً مسلمانوں کے اعتبار سے ظلم  
و استبداد کا زمانہ کہا جائے گا، امیر المؤمنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت  
کے بعد ان سے تعلق اور انتساب رکھنے والوں کو قید و بند کی صحوتیں جھیلنی پڑیں،  
۱۸۵۷ء کے واقعہ شاہی کے بعد بہت سے اصحاب درس و تصنیف، علماء اور اصحاب  
ارشاد و تربیت مشارک نے ملک سے بھارت بھی کی اور حریمین شریفین میں قیام اختیار کیا،  
ان میں حضرت شاہ محمد اسحاق، حضرت شاہ محمد یعقوب دہلوی، حضرت شاہ عبدالحق  
محمد دہلوی، علامہ رحمت اللہ کیرانوی مصنف "اطہار الحق" و بانی "مدرسہ صولتیہ" مکہ مکرمہ  
اور شیخ المشائخ حضرت حاجی احمد اللہ مہاجر کی جیسی نادرہ روزگار شخصیات ہیں۔

حضرت کا یہ سلسہ چاری رہا، کچھ علماء کو ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کی فکر  
وامن گیر ہوئی، ان کی تعلیم و تربیت اور دین کی بقا کے انتظامات پر غور کیا تو ان کے  
ذہن میں یہ بات آئی کہ دین کی بقا کا سب سے بڑا ذریعہ علوم دینیہ کی حفاظت اور  
مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کے وسائل کی فکر ہے، چنانچہ ہندوستان میں دینی  
مدارس کے قیام کی فکر و کوشش کی گئی اور ہندوستان میں تعلیم و تربیت کے مرکز کا قیام

بھی عمل میں آنے لگا، نئی نسل کے ایمان و عقیدہ کے تحفظ اور علماء و مصلحین کے تیار کرنے کا عمل ایک ضروری کام تھا، یہ فکر کو شش مولانا محدث قاسم نانو توی بانی دارالعلوم دیوبند اور ان کے رفقی درس واردات مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا سعادت علی سہارپوری بانی مظاہر علوم سہارپور، مولانا محمد علی مونگیری بانی مدروسة العلماء لکھنؤ اور ان کے ملاوہ مولانا کرامت علی جو پوری کے بنگال و آسام میں دعویٰ دروں اور مولانا سید جعفر علی نقوی کے مشرقی ہندوستان اور نیپال کے خطہ میں دعویٰ واصلیجی دروں کے ذریعہ دین کے استحکام اور نئی نسل کے ایمان و عقیدہ کے تحفظ کی کوششیں جاری تھیں، ان اداروں سے علماء اور اصحاب درس و افادہ تیار ہو رہے تھے۔

دینی مرکز تعلیم و تربیت میں ایک مدرسہ و خانقاہ گنج مراد آباد کا پور میں حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی قائم تھی، اور درودور سے لوگ اس مدرسہ و خانقاہ میں آتے تھے، جو ایک طرف مندابند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کے مدرسہ کی شاخ اور دوسری طرف مجددی تربیت گاہ کا فیض تھی، اسی مدرسہ تعلیم و تربیت سے فیض یافتہ شخصیات میں ایک شخصیت مولانا سید جویب اللہ فیض آبادی کی تھی، انہوں نے بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ مددیہ منورہ تبریت کی، جس طرح مکہ معظمه میں مدرسہ صولتیہ کی بنیاد پڑی اسی طرح مددیہ طیبہ میں مدرسہ علوم شرعیہ کی بنیاد آپ اور آپ کے صاحبزادگان کے ذریعہ پڑی، انہی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ بھی تھے جن کے مجاہد و عزیزیت کا حال یہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں ۱۲-۱۳

گھنٹے درس دیتے تھے، اور دو دھن و کھور پر قیامت کرتے، ان کے درس سے جو حدیث دشیریف کا درس تھا استفادہ کر کے حج و عمرہ میں آنے والے مختلف ملکوں کے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر دین کے لئے قریانیاں دیں اور سامراج کے خلاف چہاد میں حصہ لیا، جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

لیکن حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان واپس آتا پڑا اور

تحریک خلافت جو "تحریک ریشمی روماں" سے متعارف تھی اس میں انہوں نے اپنے استاد و مرتبی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے ایک جان شار خادم کے طور پر پورا حصہ لیا اور ان کے بعد دارالعلوم دیوبند کی منڈحدیث بھی سنہجاتی جب وہاں کے شیخ الحدیث علامہ افروز شاہ صاحب شمیری رحمۃ اللہ علیہ بعض مصلحتوں سے دیوبند سے ڈا بھیل (گجرات) کے مدرسہ تعلیم الدین منتقل ہو گئے تھے۔  
 مالتا میں قید کے وقت جب انگریز بر سلوکی کرتے تو وہ صبر و تحمل کا سہارا لیتے تھے،  
 حضرت شیخ الہند کی مالتا کے اسارت کا حال انہی کے شاگرد جو بعد میں ان کے چانشیں کے طور پر متعارف ہوئے حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی نے "نقش حیات" میں لکھا ہے کہ:

"مالٹا نہایت سرد چکہ ہے، ہم کو ابتدا میں خیموں میں رکھا گیا،  
 سردی خیموں کے باہر تو انتہائی درجہ کی پڑتی تھی، مگر اندر بھی اس  
 قدر پڑتی تھی کہ باوجود یہ کہ لکڑی کی چار پانیوں پر مچھ گدہ اور  
 اوپر دو کمبل ہوتے تھے، پھر بھی آدمی رات کے بعد سردی کی  
 شدت سے نیند نہیں آتی تھی، مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ حسب  
 عادت ذیژھہ دو بجے اٹھتے، پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر  
 ٹھٹھے پانی سے وضو کرتے اور چوں کہ پیشاب کے پار بار آنے  
 کی بیماری تھی ایک شب میں کئی کئی مرتبہ ضرورت پڑتی تھی، تاہم  
 بلا تکلف پار بار وضو کرتے تھے، اگرچہ بعد میں ہم گرم پانی اور  
 آگ کے مہیا کرنے کا انظام بھی کر سکے، تاہم اس قسم کا انظام  
 عرصہ تک نہیں ہو سکا تھا، تب بھی بلا تکلف حضرت رحمۃ اللہ علیہ  
 اپنے اعمال بجالاتے رہے۔"

انی عہد میں ایک رمضان میں قرآن مجید سنانے والا کوئی حافظ نہیں ملا تو حضرت

نے فیصلہ کر لیا کہ وہ روز آنے ایک پارہ یاد کریں گے اور روز آندرات کو تراویح میں سنا کیں گے، اس طرح انہوں نے جیل میں بھی حضرت شیخ الہندی بڑی خدمت کی، حضرت شیخ الہند سے ان کو بڑی عقیدت اور محبت تھی، اس کا اندازہ حضرت کے خطوط سے ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی نے اپنی پوری توانائی جن مجاہدوں پر لگائی ان میں ایک درس و تدریس کا مجاہد ہے، جس کے لئے دارالعلوم دیوبند کا قیام رہا، اور ان کے اس درس حدیث سے جو ولی الہی درس حدیث کا امتداد تھا اور اس کے وہ اپنے دور میں صریح و مرکز بن گئے تھے، بڑے بڑے علماء لئے اور خال مخدوم و معظم حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے بھی چند ماہ ان کے درس حدیث سے استفادہ کے لئے دارالعلوم کا قیام اختیار کیا اور ان کی توجیہات لیں۔

دوسری طرف مولانا سید حسین احمد مدینی نے ملک کی بروطانی سامراج سے آزادی کے لئے کوششوں میں پوری قوت سے حصہ لیا اور جب جیتیہ علماء ہند کی قیادت ان کے حصہ میں آئی تو کاغذیں کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑے بڑے پروگرام منعقد کئے، اور یہاں کی اعلیٰ درجہ کی تابیعت تھی کہ انہوں نے درس و تدریس کو اپنی ان سرگرمیوں سے متاثر نہیں ہونے دیا اور یہاں کا اعلیٰ درجہ کا اخلاص تھا کہ ملک کو بروطانی سامراج سے آزاد کرانے کے بعد انہوں نے اس کا مادی صلقوں نہیں کیا، نہ ہی وزارت حکومت میں حصہ دار بنے اور نہ کوئی ایوارڈ وغیرہ قبول کیا جو ملک کی اعلیٰ شخصیت کے طور پر ان کو ملے جا رہا تھا۔

مجھے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدینیؒ کو اپنی طالب علمی کے زمانہ سے اور بعد میں بھی قریب سے دیکھنے اور دیوبند میں استفادہ کی سعادت حاصل ہوئی، تحریک آزادی کے دوران حضرت کا لکھنؤ کا سفر ہوتا اور میرے بڑے ماموں مولانا ذاکر سید عبدالحی حسینی (سابق ناظم ندوۃ العلماء) کے مکان پر قیام ہوتا، تو ہمیں حاضری کا موقع اور ان کی مجلسوں میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور بورو ران

قیام استفادہ کا بھی موقع ملتا اور حضرت کی تقریں ہوتیں تو ان کے سنتے کا بھی موقع ملتا، حضرت کے بیان میں انگریزوں کے مظالم خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کا ذکر ہوتا، اکثر وہ ڈاکٹر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کی کتاب سے مسلمانوں کے تعلق سے اقتباسات سناتے اور مسلمان، اسلام، مسلم و شیعی اور سما راجی منصوبوں سے آگاہ کرتے اور ہندوستان اور عالم اسلام کے خلاف ان کی سازشوں اور جبر و قہر کے سلوک کا ذکر کرتے اور مسلمانوں کی پسمندگی کا ان کاصل سبب قرار دیتے۔

خطبہ بنگال و آسام میں رمضان گزارنے کا طویل عرصہ معمول رہا اور اپنے وطن ٹائٹل افیش آباد میں اور آخر میں دارالعلوم دیوبند میں قیام رہا، اور وہاں اہل تعلق حاضر ہو کر استفادہ کرتے، رمضان میں ان کے معمولات ایسے ہوتے جو ہر شخص کی برداشت کے باہر ہوتے، رات کا زیادہ وقت تلاوت، نماز اور ذکر و دعا وغیرہ میں گزارتے اور بہت جاہدے کرتے اور تدریس کے ساتھ ان کی مصروفیات میں کوئی فرق نہ آتا، صبر و تحمل اور تواضع میں ان کی مثال مانا مشکل ہے، اپنے کو ہمیشہ دوسروں کے مقابلہ میں مکتر سمجھتے اور اپنے خطوط میں آخر میں اپنے لیے نگ اسلاف لکھتے جبکہ حقیقت میں وہ اسلاف ہی کا شمعونہ اور یادگار سلف تھے اور اپنے عصر کے سبھی مشارک اور علماء کی نظر میں ان کا اعلیٰ مقام تھا۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کانڈھلویؒ نے اپنی "آپ بیتی" میں حضرت کی آمد کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جس سے ان کے بارے میں ادب و اکرام کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان کی آمد پر بڑی صرفت و خوشی کا والہانہ انداز سے ذکر کیا ہے، اسی لیے حضرت سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص حضرت شیخ کے پاس آتا تھا تو اس کا بھی اکرام فرماتے تھے، یہی حال حضرت مولانا شاہ عبدالقدور رائے پوری اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا بھی تھا، حضرت کی شخصیت بہت بار عجب تھی، ملاقات و زیارت میں جس کی نظر پڑتی وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور جس پر ان کی نظر پڑتی اس کی زندگی

متاثر ہو جاتی تھی۔

ہمارے خاندان کے متعدد افراد و خواتین حضرت سے بیعت و استرشاد کا تعلق رکھتے تھے، جس میں خاص طور پر حضرت مولانا عبدالحی حشی (سابق ناظم ندوۃ العلماء) کے معاون خاص مولانا سید عزیز الرحمن حشی (والد ماجد مولانا سید ابو بکر حشی) اور برادر حضرت مسلم حشی (دادا عزیزی مولوی محمود حشی ندوی سلمہ) اور ہماری نانی صاحبہ والدہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حشی ندوی اور خالہ صاحبہ سیدہ امۃ اللہ التسینیم مرحومہ جنہوں نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان سے تجدید بیعت کی تھی، قابل ذکر ہیں۔

حضرت مدینی کو اپنے سیاسی موقف کی وجہ سے مسلمانوں کے ایک گروپ کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے موقف پر اخیر تک قائم رہے۔ سفر میں بعض سیاسی مخالفین کی طرف سے سخت ہدایت آمیز روایہ اختیار کیا گیا، لیکن حضرت نے ثبات اور صبر و تحمل کا ثبوت دیا اور اس کا بھی ذکر بھی نہیں کیا۔

آزادی کے بعد دیوبند کی بار حاضری ہوئی، وہاں دیکھا کہ حضرت سب مہماںوں کے ساتھ بغیر کسی تفریق کے سب کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا معاملہ فرماتے۔

مولانا کا معمول تھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ حسن سلوک فرماتے اور یہ اس لیے کرتے تاکہ وہ قریب آئیں اور مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں اچھا تاثر قائم ہو، تین میں مسافروں اور عملہ کے ساتھ احتمال جاتے، خصوصی معاملہ فرماتے اور ان کی تربیت کرتے، بعض وقت خدمت اور صفائی وغیرہ کی ضرورت پڑتی تو خود ہی پیش قدمی کرتے۔

دہلی میں جمیعہ العلماء کے اجتماعات کے موقع پر دفتر جمیعہ میں جب حضرت کی آمد ہوتی، تو حاضری کا موقع ملتا اور وسرے علماء اور مسلم قائدین کا اجتماع ہوتا، تو علی

ہدیٰ اور طلبی موضوعات پر تبادلہ خیال ہوتا، حضرت کی مجلس بڑی باوقار ہوتی، کبھی کبھی مولانا ابوالکلام آزاد بھی تشریف لاتے، تو یہ مجلس اور سچ ہو جاتی۔

سیاسی مصروفیت کے باوجود ان کے اپنے متحملوں میں کوئی فرق نہ آیا، سفر سے واپسی کے فوراً بعد درس حدیث میں مشغول ہو جاتے اور پورے استغفار اور کرم و خداوت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، دستِ خوان ان کا ہمیشہ بہت وسیع رہا، سفرج کے لیے جب روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت اس ناچیز کوچال معظم مولانا سید ابو الحسن علی حسینی ندویؒ کے ساتھ حاضری کا موقع ملا، اس وقت حومام و خواص کا پرہیز جو جم قہا اور عجیب منظر قہا جو بھلایا نہیں جاسکتا، خال معظم مولانا سید ابو الحسن علی حسینی ندویؒ نہیں اپنے عہد و عصر کی سب سے بڑی شخصیت قرار دیتے تھے، چنانچہ مقدس میں ان کے قیام اور درس و افادہ اور بصیرت میں دعویٰ و اصلاحی دوروں اور افادہ عام کے باعث نہیں شیخ العرب والجم بھی کہا گیا۔

عزیزی مولوی محمود حسن حسینی ندوی سلمہ نے حضرت کے پارے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسینی ندویؒ کے تاثرات اور مضامین و مقالات کو جو مختلف موقع و مناسبت پر بعض مجلات کے لیے لکھے گئے ان کو جمع کرنے کا کام کیا اور بعض مقامات پر توشیح نوٹ بھی لگانے ان کی خواہش پر یہ سطریں تحریر کی گئیں۔

اس دور میں جنکہ جنگ آزادی میں اور مسلمانوں کی طی خدمات کے سلسلہ میں جن بزرگوں نے قربانیاں دیں، ان کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، اس کی ضرورت ہے کہ ان بزرگوں کا تذکرہ کیا جائے، اس وقت پھر حالات مسلمانوں کے اعتبار سے سابق سامراجی ملکوں کی سازشوں کے تیجہ میں فکرمندی کا باعث بن رہے ہیں، ان شخصیات کا ذکر بہت ضروری ہے، جنہوں نے سامراج کے مقابلہ میں قائدانہ روں ادا کیا ہے۔

هم عزیزی مولوی سید محمود حسن حسینی ندوی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے

حضرت مولانا حسین احمد مدینیؒ کی شخصیت اور خدمات پر مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حشی ندوی کے لکھنے گئی مقالات کو مرتب کر کے ایک دستاویز تیار کروی، اللہ تعالیٰ اسے نافع بنائے اور قول فرمائے (آمین)۔

محمد واضح رشید حشی ندوی  
(دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

۱۳۲۷ھ

۲۲ مارچ ۱۹۰۸ء

## عرض مرتب

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد  
پيش نظر كتاب "تذكرة شيخ الاسلام حضرت مولانا سيد حسین احمد مدفی قدس سرہ" در  
اصل ان مضمایں و مقالات اور خطابات کا مجموعہ ہے جو مختلف مناسبت سے مفکر اسلام  
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسینی ندوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے آئے، "مکاتب شیخ  
الاسلام" پر اس کے مرتب حضرت مولانا ابی الحسن الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ لکھوایا  
تھا، جو اس کی دوسری جلد میں شامل کیا گیا ہے، اور حضرت مولانا قدس سرہ پر مولانا فرید  
الوحیدی حلیہ الرحمن کی بہسٹو کتاب پر تفصیلی مقدمہ اور حضرت شیخ الاسلام پر ایک سینیار  
کے مقالات کا مجموعہ جو مولانا ذا اکثر رشید الوحیدی صاحب کا مرتب کردہ ہے، اور دار  
العلوم ندوۃ العلماء کی مسجد میں حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کا ایک تعریقی خطاب جو  
ماہنامہ "الفرقان" لکھنؤ میں شائع ہوا تھا، اور نزہۃ الخواطر جلد ہشتم میں حضرت شیخ  
الاسلام قدس سرہ کا تذكرة جو اس کے مصنف حضرت مولانا عبدالحی حسینی رحمۃ اللہ علیہ  
(سابق ناظم ندوۃ العلماء) کے قلم سے تھا، جس کی اشاعت کے وقت اس کی تکمیل  
حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے کی تھی، جس کا ترجمہ برادر مولوی  
محمد اصفاء الحسن کائز حلیوی ندوی (استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء) نے کیا ہے، اور "پرانے  
چراغ" و "سوائی خ حضرت رائے پوری" و "حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی  
دھوکت" اور "سوائی خ حضرت مولانا محمد زکریا کائز حلیوی" اور حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کی  
بعض دوسری تحریریوں سے جو مواد و متنیاب ہوا، اس کو ان کے حوالوں کے ساتھ پیش

کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جس کے لیے اپنے احباب مولوی محمد تقی  
خال ندوی، مولوی محمد ارمان ندوی بداریوں اور مولوی سید محمد تقی حنفی ندوی کی کتاب کا  
ٹائیل ان کے ذوق کا شاہکار ہے کاراقم بہت ممنون و مشکور ہے، اول الذکر دونوں  
احباب کا اس لیے کہ انہوں نے کپوزنگ اور ترتیب کے مرافق میں بڑا تعاون دیا، مخدوم  
گرامی حضرت مولانا سید محمد رابع حنفی ندوی اور مخدوم گرامی حضرت حضرت مولانا سید  
محمد واضح رشید ندوی کی تقریبات اور خال مختارم مولانا سید بلال عبدالجی حنفی ندوی کا  
عرض ناشر یہ اس مجموعہ مضامین و افادات کو زینت واختیار بخشتا ہے، اس عظیم و عبقری و  
تاریخ ساز اور اپنے عہد کی سب سے بڑی شخصیت کے متعلق کہنے اور لکھنے کو جو تو بہت  
چاہتا ہے، لیکن اکابر کی تقریبات اور تحریروں کے بعد مزید پوچھ کہنے کا موقع نہیں، سوانحی  
خاکہ کے طور پر مربی حلیل حضرت سید انور حسین زیدی شاہ تھیس احسینی لاہوری نور اللہ  
مرقدہ کا مضمون ”المجمعیۃ شیخ الاسلام ثبیر، والی“ سے ماخوذ اور بہت سی غلط فہمیوں کے  
از الہ کا باعث ہضمون ہے جو شامل اشاعت ہے۔

سید احمد شہید اکیڈمی، رائے بریلی اسے شائع کر رہا ہے، واضح رہے کہ صاحب  
تذکرہ حضرت سید احمد شہید قدس سرہ سے نہ صرف بڑی عقیدت اور الہامی محبت و شیفتگی  
رکھتے تھے، بلکہ ان کے مشن کو آگے بڑھانے والی شخصیت اور ان کے جہاد و عزیمت کو  
زندہ رکھنے والی هستی اور سلوک و عرقان، ارشاد و تربیت میں ان کے سلسلہ طریقت  
کے افادہ کو عام کرنے والے صاحب سلسلہ بزرگ بھی تھے۔ راقم اس کو اللہ کے  
انعامات میں سے اپنے اور ایک بڑا انعام سمجھتا ہے کہ اسلام کے ایک عظیم بطل حلیل  
پر اس کے دوسرا بطل حلیل عظیم کے قلم سے خارج عقیدت کو جمع کر کے اور ترتیب  
وے کر پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس ذات مالی نے توفیق وی اسی سے  
قبویت کی وعاء ہے۔ و ما ذلك على الله بعزيز۔

محمود حسن حنفی ندوی

(دارہ حضرت شاہ علام اللہ تکمیل کلاس)

حمد المبارک / جادوی الآخری ۱۴۳۳ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# مولانا حسین احمد فیض آبادی

مولانا سید عبدالحی حسینی (متوفی ۱۳۷۱ھ-۱۹۵۲ء)

(سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

”حضرت مولانا حسین احمد مدفی پر سب سے تحقیقت افروز مضمون غالباً وہ ہے جو والد امام جو مولانا حکیم عبدالحی صاحبؒ کی شہرہ آفاق تصنیف ”نزہۃ الخواطر“ کی آٹھویں جلد میں شامل ہے، مصنف مرحوم نے اپنی زندگی میں ان کا تذکرہ کتاب میں شامل کیا تھا، وہ مولانا کے والد امجد مولانا حبیب اللہ صاحب کے پیر بھائی بھی تھے۔

۱۳۸۸ھ-۱۹۶۸ء میں جب اس آخری حصہ کی اشاعت کا دائرة المعارف العثمانيہ حیدر آباد نے فیصلہ کیا تو رقم سطور نے اس میں معتقد باخانہ کیا اور اس کی تجھیل کی، اب وہ کم سے کم عربی میں حضرت مولانا کے سلسلہ میں طاقتور تعارفی مضمون ہے۔ (ابوالحسن علی)

حضرت مولانا سید عبدالحی حسینی نور اللہ صرقہ کے مضمون کا ترجمہ برادر مولانا محمد اصطفاء الحسن کاندھلوی ندوی (استاد ادارہ العلوم ندوۃ العلماء) نے کیا ہے، جسے عمومی افادہ اور موضوع کی مناسبت سے یہاں شامل کیا گیا ہے۔ (محمود)

مولانا حسین احمد (مدنی) فیض آبادی ایک بڑے محدث اور علمائے صالحین میں سے تھے۔ ۱۹ ارশوال ۱۲۹۶ھ میں باگھر مسکو میں پیدا ہوئے اور اپنے اپنی علوم نائندہ میں حاصل کئے۔ ۱۳۰۴ھ میں جب کہ آپ کی عمر صرف تیرہ سال تھی، سفر کے دارالعلوم، دیوبند تشریف لے گئے، سات سال تک وہاں رہ کر فراگت حاصل کی۔ ایک لمبے عرصہ تک علامہ محمود حسن دیوبندی کی خدمت میں رہ کر ان سے حدیث و فقہ کا علم حاصل کیا، پھر گنگوہ آگئے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہ سے بیعت ہو گئے۔ جب آپ کے والد صاحب نے ۱۳۰۸ھ میں مدینہ منورہ پریست کی تو آپ بھی مع جمیع خانہ ان کے ہمراہ تھے۔ مکرمہ میں آپ کی ملاقات حضرت حاجی احمد اللہ مہماجر کی سے ہوئی جو کہ آپ کے شیخ الشیخ (پیر کے پیر) تھے، آپ نے ان کی صحبت سے فیض اٹھایا اور خوب استفادہ کیا۔ مدینہ منورہ آ کر آپ نے زہد و تقویٰ، توکل و اخلاص اور سادگی کی زندگی اختیار کی۔ ۱۳۱۸ھ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہ نے آپ کو بلالیا، دو سال آپ وہاں رہے، شیخ نے آپ کو اجازت بھی دی۔ ۱۳۲۰ھ میں آپ واپس چاڑ تشریف لے آئے، اور حسپہ للہ مدینہ منورہ میں تدریس کا مشغله اختیار کر لیا۔ تھجد کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد تک آپ تفسیر، حدیث اور فقہ کا درس دیتے تھے، ۱۳۲۲ھ تک بھی معمول رہا، درمیان میں ہندوستان آمد بھی ہوتی رہی، اور مولانا محمود حسن صاحبؒ کے درس میں شرکت بھی، پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ۱۳۲۴ھ میں وہ مدینہ منورہ پہنچے، آپ ان کے ساتھ ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ مکرمہ مکرمہ آئے، وہ وقت دوسرا جنگ عظیم اور تشریف حسین کی عثمانی حکومت کے خلاف بغاوت کا تھا۔ مولانا محمود حسن کے ساتھ آپ اور آپ کے علاوہ ہولوی عزیر گل، حکیم نصرت حسین کوڑا جہان آبادی وغیرہ تھے۔ چاڑ کی حکومت نے ان لوگوں کو گرفتار کر کے انگریز حکومت کے پروردگر دیا، جس نے ان سب کو پہلے مصر پکرو ہاں سے مالا منتقل کر دیا۔ ۱۳۲۵ھ

ریج الآخر کے آخر میں یہ لوگ مالٹا پہنچے اور ۳۴ سال ۲ مرینے وہیں رہے۔ اسی دوران حکم نصرت حسین کا انتقال ہو گیا، اور آپ اس عرصہ پوری جانشناختی سے اپنے استاد کی خدمت، اللہ کی عبادت اور کتابوں کے مطالعہ میں لگے رہے اور قرآن کریم بھی حفظ کر لیا۔ ۲۲ رب جمادی الآخری ۱۳۴۰ھ میں رہائی کا حکم صادر ہوا اور یہ حضرات باعزت بری ہو کر ہندوستان پہنچے، ہندوستان پہنچ کر جب مولانا محمود حسن صاحب مرض وفات میں پہنچا ہو گئے، تو آپ نے راقوں کو جاگ کر ان کی خدمت کی۔ (۱)

اسی دوران مولانا آزاد نے کلکتہ میں ایک مدرسہ قائم کیا اور مولانا محمود حسن دیوبندی سے فرمائش کی کہ اپنے خواص میں سے کسی کو تدریس کے لئے وہاں پہنچ دیں، اس پر انہوں نے ان کو کلکتہ جانے کا حکم دے دیا۔ آپ نے اپنی خواہش پر شیخ کی رضا کو ترجیح دی، اور زیادہ دور نہ گئے ہوں گے کہ شیخ کی وفات کی خبر آگئی۔ آپ فوراً دیوبند والوں آئے لیکن شیخ کی تدفین ہو چکی تھی۔ اس کے بعد آپ کلکتہ آگئے اور ایک مدت تک اس مدرسہ میں تدریس میں مشغول رہے۔ پھر وہاں سے (آسام کی راجدھانی) سلہٹ منتقل ہو گئے اور وہاں ۶۰ سال حدیث شریف کا درس دیتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے اور ان میں غیرت، محبت اور آزادی کے جذبے کی روح پھوٹتے رہے، اور بے شمار لوگوں نے وہاں آپ سے فائدہ اٹھایا۔

جب ہندوستان میں آزادی اور سیاسی انقلاب کی تحریک نے زور پکڑا تو آپ بھی اس میں لگ گئے، آپ نے انگریز فوج میں ملازمت کے حرام ہونے کا فتوی دیا، جس کی وجہ سے محرم ۱۳۴۰ھ میں آپ کو قید کرویا گیا، کراچی کی عدالت میں آپ پر مشہور مقدمہ چلا اور دو سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی اور آخر کار ۱۳۴۲ھ میں جا کر

---

(۱) آغاز ترجمہ سے یہاں تک مصنف نہہ الخواطر کے قلم سے ہے، پھر فرزند مصنف حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ کا اضافہ اور تکمیل ہے، یہ بات مولانا ہارون ندوی اندوری دامت طکر نے بتائی، جنہوں نے ۶۹-۷۸ء میں نہہ جلد تکمیل کا حضرت مولانا کے ساتھ تاپ شدہ پروف پڑھا تھا۔ (محفوظ)

آپ کو رہائی نصیب ہوئی۔

جب علامہ انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث کے منصب سے علیحدگی اختیار کر کے ڈاکٹری نقل ہو گئے تو آپ کو شیخ الحدیث اور صدر مدرس چنایا گیا، لہذا آپ ۱۳۴۷ھ میں دیوبند نقل ہو گئے اور حدیث کی تدریس کے ساتھ مدرسہ کی ریاست کی ذمہ داری بھی سنپھال لی، جس سے مدرسہ کی شہرت، مرکزیت اور لوگوں کا اس پر اعتماد گھوڑا رہا۔ آپ نے پوری مستعدی کے ساتھ حدیث کا درس دیا، مسلمانوں میں غیرت و حیمت زندہ کی اور بے مثال ہمت اور قوت ارادی کے ساتھ درسی و سیاسی دونوں کام انجام دیتے رہے۔ آپ نے ہندوستان کے طول و عرض میں مشقت بھرے سفر کیے، جلسوں میں شرکت کی اور تقریبیں کیں، آپ اپنے اوقات کے بڑے پابند تھے، راتوں کو جاگ کر اپنے اور او و ظالائف پورے کرتے اور درستی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور پھر پوری پشاوشت کے ساتھ درس دیتے۔ آپ کے اندر حسد سے زیادہ تواضع تھی، آپ آنے والے فود اور ملاقاً تیوں کا اکرام کرتے اور سائلوں کا حق ادا کرتے۔

آپ نے قومی مسئلہ کی طرف بھی توجہ کی، نہ صرف اس کی تائید کی بلکہ جمعیت علماء کا پورا ساتھ دیا، جس کے آپ اہم ترین رکن بھی تھے، اور ۱۳۴۸ھ میں تحریک کی قیادت کی، جس کی وجہ سے آپ گرفتار کر لیے گئے لیکن پھر چھ مہینے کے بعد چھوڑ دیا گیا، جمعیت کے کئی سالانہ جلسوں کی آپ نے صدارت بھی کی، ۱۳۵۰ھ میں جب قومی تحریک کھڑی ہوئی اور اس کا ماحول گرم ہوا اور کانگرس نے انگریزوں سے ملک چھوڑنے کو کہا تو آپ نے اس موقعہ پر ایک جوشی تقریبی، جس کی وجہ سے ۱۳۵۲ھ جماوی الآخری ۱۳۵۰ھ میں آپ کو گرفتار کر لیا گیا، تین سال تک آپ نے صبر و احساب کے ساتھ قید میں گزارے اور زینتیں برداشت کیں، عبادت کرتے رہے اور دیگر قیدیوں کو فائدہ پہنچاتے رہے، تا آنکہ ۶ رمضان ۱۳۵۳ھ میں آپ کا رہائی

نامہ جاری ہوا اور آپ نے قید خانہ سے واپس آ کر پھر وہی جنگ و جہاد، تعلیم و تدریس، اصلاح و ارشاد اور ملک و قوم کی خدمت کا سلسلہ شروع کر دیا۔

اسی دورانِ اسلامی جماعت کی تحریک نے زور پکڑا اور ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ اور پاکستان کے نزیرے لگانے شروع کئے، اور عام مسلمان جوش و جذبہ میں آ کر اس تحریک سے قریب ہوتے چلے گئے، لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ اس سوچ سے مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچے گا، آپ کا خیال تھا کہ اس سے مسلمان اپنا سیاسی مرکز اور ملی اتحاد کو کھو دیں گے، لہذا آپ نے پورے اخلاص اور دیانت داری کے ساتھ اس تحریک کی مخالفت کی، ملک بھر میں دورے کیے اور برتاؤ اپنی سوچ کا اظہار کیا اور کسی کے لئے طعن کی اور نہ اپنی عزت و آبرو کی پرواہ کی۔ اس کے نتیجہ میں جوش سے بھرے ہوئے تقسیم کا مطالبہ کرنے والوں اور اسلامی جماعت کے پیروکاروں کے عضو کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے صبر و احتساب کے ساتھ ان کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں اور رسایوں کا خل کیا، اور اپنی کوشش میں کمی نہیں آنے والی اور نہ ہی اپنی سرگرمیوں کو روکا، اور بے حرص و طبع، کسی تعریف و تتفیق کی پرواہ کیے بغیر برادر مسلم برا دران وطن کو صحیح بات سمجھاتے رہے۔ آخر کار رمضان ۱۴۲۶ھ (جولائی ۱۹۰۷ء) میں تقسیم کا اعلان ہو گیا اور فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے، ملک کے شہروں اور قریوں میں قتل عام شروع ہو گیا، خاص طور پر شمال مغربی ہندوستان اور وہی کے اطراف میں مسلمان اس کا شکار ہوئے، اور وہی ہوا جس کا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اندر پڑھ تھا، جو لوگ پاکستان جائے وہ پاکستان چلے گئے اور جو ہندوستان میں رہ گئے ان کو بڑی بریشانی اور زیوں حالی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعہ کے بعد اس بات کا خطرہ تھا کہ دینی و شخصی صراحت کو زوال نہ آجائے اور ہندوستان کے بچے کچھ مسلمان کمیں اکثریت کے سامنے ڈھیر نہ ہو جائیں، اس موقعہ پر آپ نے ایک دین کے واعظ کا رخ اختیار کیا، مسلمانوں میں ایمان، توکل علی اللہ اور دینی محیت کی روح پھوٹی، اور ان کو محبت

دی کروہ جملیہ آوروں کا مقابلہ اللہ کے بھروسہ پر صبر و ثابت قدمی کے ساتھ کریں۔ آپ کی نصیحتوں اور گشتوں سے اجڑے ہوئے دل قوت پائیں گے، لڑکھراتے قدم بننے لگے، خطرہ مل گیا، لکھا چھٹ گئی اور مسلمانوں کے دینی و میمی ادارے کسی قسم کے زوال کا شکار نہ ہو سکے، اور مسلمانوں نے پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کا کاروبار شروع کر دیا۔

تقطیم ہند کے بعد آپ نے عملی طور پر سیاست سے عیحدگی اختیار کر لی، اور ورنہ وذر لیں، دعوت و ارشاد اور تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے، حکومت اور حکومت کے لوگوں سے آپ کا تعلق باقی نہیں رہا، جمادی الاولی ۲۳ھ (۱۹۵۴ء) میں صدر جمہوریہ ہند نے آپ کو ایک اعزازی عہدہ دینے کی پیش کش بھی کی لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا یہ ہمارے اسلاف کے طرزِ عمل سے میل نہیں کھاتا۔ آپ دارالعلوم دیوبند ہی میں حدیث شریف کا درس دیتے رہے، اور ساتھ میں ملک کے دورے بھی کرتے رہے، اور مسلمانوں کو دعوت دیتے رہے کہ دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں، شریعت اسلامی کے احکام کی پیروی کرتے رہیں، حضور ﷺ کی سنقاوں پر چلتے رہیں، اور اللہ کے ذکر کی کثرت اور اصلاح حال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کروایا اور آپ کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کر دی تھی، ہر طرف سے لوگ آپ کی خدمت میں تھا بھی اور گروہوں کی ٹھنڈل میں بھی حاضر ہوتے تھے اور اسی طرح اپنے بیہاں بلانے والوں کے دعوت ناموں کا بھی آپ کے پاس ڈھیر لگا رہتا تھا، جن کو آپ بڑی خوش ولی سے قبول کر لیتے تھے اور مشقتیں اٹھا کر وہاں تشریف لے جاتے تھے۔ آخر کار آپ مرض قلب اور بیلڈ پریشر میں پتلہ ہو گئے، جس کی وجہ سے کچھ حدت تک سفروں کا سلسہ منقطع رہا، اور آپ کو مستقل گھر پر رہنا پڑا، اس حال میں بھی آپ اپنے معمولات کو پابندی، اصلاح و تربیت کی کوشش، آنے والوں سے ملاقات اور مہماںوں کا اکرام کرتے رہے۔ آخر میں آپ پر اللہ تعالیٰ کی خیست اور

رقت قلب کا غلبہ ہونے لگا اور اپنے رب کے حضور گریہ وزاری اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگ گئے۔ ۱۳ ارجمندی الاولی کے بعد میں آپ کی وفات ہوئی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کانڈھلویؒ نے ایک تمغیر کو نمازِ جنازہ پڑھائی اور اپنے شیخ مولانا محمود حسن دیوبندی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے جوار میں مدفن ہوئے۔

مولانا حسین احمد کی شخصیت صدق و اخلاص، خودداری، قوت ارادی اور بلند ہمتی میں یکتا نے روزگار شخصیت تھی، آپ تکلیفوں پر صبر کر لیتے تھے اور دشمنوں کو نہ صرف معاف کر دیتے تھے بلکہ ان کی سفارشیں کرتے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوششیں کرتے تھے، آپ اپنے اصولوں کے پابند، کشادہ ذہن اور مختلف خصوصیات کے حامل تھے۔ آپ نے متفاہمیدانوں میں کام کیے، اس کے باوجود آپ کی پاکیزگی پرشنبہ نہیں کیا جاسکا، آپ کی بلند ہمتی سنتی و کمزوری سے آشنا ہو سکی اور آپ کی زندگی عملی پیغم سے عمارت رہی۔

آپ کے اوقات مصروف کار اور مٹکلم رہتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد مہماںوں کے ساتھ جن کی بڑی تعداد ہوتی تھی، ناشستہ کرتے، پھر دار الحدیث چلے جاتے، صحیح بخاری اور جامع ترمذی کا درس دیتے، عام طور پر عمارت خود عربی لہجہ میں اور صاف و بلند آواز میں پڑھا کرتے اور پھر اس کی خوب توشیح و تشریح فرماتے۔ اس کے بعد واپس آتے اور مہماںوں کے ساتھ روپر کا کھانا تناول فرماتے پھر قیلولہ کرتے۔ ظہر کی نماز کے بعد آنے والوں سے ملاقات کی نشست ہوتی، ان کے ساتھ چاہے پی جاتی، خط و کتابت کا سلسلہ چلتا، اور سائلوں اور ضرورت مندوں کی حاجات روائی کی جاتی۔ عصر کے بعد بھی ملنے والوں کے ساتھ نشست ہوتی اور آپ بڑی انسیت کے ساتھ ان سے گفتگو فرماتے۔ تعلیمی سال کا جب آخر ہوتا تو اس وقت بھی مغرب تک درس دیتے۔ مغرب کی نماز کے بعد شلوں کے لئے کھڑے ہو جاتے جن میں قراءت و قیام

خوب لمبا ہوتا، اس کے بعد مریدوں اور اہل سلوک کے لئے وقت نکالتے۔ عشاء کے بعد صحیح بخاری کا درس ہوتا جو تہائی رات، یانصف شب تک جاری رہتا، پھر گھر تشریف لے جاتے اور ٹھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد تجد کے لئے کھڑے ہو جاتے اور خوب لمبا قیام کرتے۔ تجد کے بعد ذکر و مرائقہ ہوتا، خوب رورو کرو ہائیں مانگتے اور کبھی منظوم مناجات کے رقت بھرے اشعار گنگنا تے اور اسی حال میں صبح ہو جاتی تو فجر کی نماز پڑھتے۔ سفر و حضر میں سشن روائب کا اور فرض میں مسنون سورتوں کا اہتمام رہتا اور اس میں کبھی خلل نہ پڑتا۔ عمر کے آخری حصہ میں دین کی حمیت اور شریعت و سنت کی غیرت کا آپ پر بڑا غلبہ رہتا تھا، اور ذرا سی کوتا ہی اس میں برداشت نہ ہوتی تھی، کبھی تو غصہ آجاتا تھا اور اس شخص پر چلا پڑتے تھے جس سے سنت نبوی کی خلاف ورزی یا شعائرِ اسلام کی بے قسطی ہوئی ہو۔

آپ امامتہ و مشائخ سے آپ کو بڑی محبت تھی اور ان کے تین بڑی غیرت رکھتے تھے۔

آپ میانہ قد اور کھم و شیم تھے، سر بڑا، پیشانی کشادہ، بڑی بڑی آنکھیں، گندمی رنگ، کسرتی بدن اور مضبوط جسم والے تھے۔ بڑا وقار و بارعب چہرہ تھا جس پر ترش روئی نہ ہوتی تھی، بلکہ ہمیشہ کھلا ہوا رہتا تھا، دلیکی کھدر کالباس پہننے تھے، اپنے استاد مولانا محمود حسن کی طرح انگریزوں سے شدید نفرت رکھتے تھے اور آپ کی محبت و نفرت خالص اللہ کے لئے ہوتی تھی۔ سونے اور جانگنے کے معاملہ میں بڑے مشاق تھے، جب چاہے سو جاتے اور جب چاہتے جاگ جاتے، رمضان میں عبادت و ریاضت اور بڑھ جاتی تھی، پہنچڑوں مریدین آ جاتے، آپ کے ساتھ روزے گذارتے اور قیام لللیل کرتے، جس جگہ آپ کا رمضان ہوتا وہ جگہ ذکر و تلاوت، شب بیداری اور عبادت گذاری سے آباد ایک خانقاہ میں تبدیل ہو جاتی۔

آپ کی تصنیفات بہت کم ہیں۔ آپ کی ایک تصنیف "الشہاب الثاقب" ہے،

ایک سفر نامہ مالا تھے، جس میں مالا کے ایام قید بندی کا ذکر اور اپنے شیخ، شیخ الہند مولانا محمود حسن<sup>شیخ</sup> کے حالات ہیں۔ اسی طرح ایک تصنیف دو جلدوں میں ”نقش حیات“ کے نام سے ہے جس کا اکثر حصہ سیاسی تاریخ پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ (مولانا محمد الدین اصلاحی) نے تین جلدوں میں آپ کے خطوط بھی صحیح کیے ہیں۔ (۱)

(۱) الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام المجلد الثالث، الجزء الثامن، ط:دار ابن حزم بيروت (محمود)

## بَابُ اُولٌ

# شخصیت کے تشکیلی عناصر اور علمی و روحانی سلسلے

**ولی اللہی درسگاہ سے انساب اور اجازت حدیث**

سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کو اپنے بھائیوں میں وہ مقام حاصل ہوا جو حضرت مجددؒ کے صاحبزادوں میں حضرت خواجہ محمد مصوص کو حاصل ہوا تھا، اور ان کے ذریعہ حضرت شاہ صاحبؒ (امام احمد بن عبد الرحیم ولی اللہ دہلویؒ) کے سلسلہ اور آپ کے علوم و تعلیمات کی یادگیری اشاعت ہوئی۔ (۱)

جہاں تک درس حدیث اور اس کی ترویج و اشاعت کا تسلط ہے، ہندوستان کی علمی و دینی تاریخ میں اس کی مثالی ملنی مشکل ہے، آپ (حضرت شاہ عبدالعزیز دہلویؒ) چاشین حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ حدیث دہلویؒ (۲) کے درس حدیث کی حدت

(۱) ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ: (۲) مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندویؒ نے ان دونوں بزرگوں کی خدمت حدیث کوان کے تجدیدی کارناموں میں شمار کیا ہے، وہ لکھتے ہیں: ہندوستان کے تختی را ظلم بلکہ حقیقتاً درا خیر میں (جو بارہویں صدی ہجری کے وسط سے شروع ہو کر اس وقت تک قائم ہے) شاہ صاحب (یعنی حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ حدیث دہلویؒ) نے حدیث کی ترویج و اشاعت، درس حدیث کے احیاء، فن حدیث کے ساتھ اعتماد اور اس موضوع پر اپنی محققانہ و مصراحتی قسمیت کے ذریعہ ایسا عظیم تجدیدی کارنامہ نجام دیا..... (باقی اگلے صفحہ پر

تقریباً چون شہ سال کی ہے، آپ نے حدیث کے ایسے اساتذہ کا ملین اور تلامذہ راشدین پیدا کئے جنہوں نے ہندوستان میں نہیں جاز میں بھی درس حدیث کا فیض عام کیا، اور ایک عالم کو مستفید کیا۔ (۱)

ان تلامذہ حدیث اور تربیت یا فتویٰ شیوخ میں حدیث کی سب سے بڑی اشاعت حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کے ذریعہ ہوئی، جنہوں نے ۸۵۸ھ میں مکہ معظمہ بھرت کی اور ان سے جاز کے ممتاز ترین علماء نے حدیث کی سند لی۔ (۲)

حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کے تلامذہ میں حضرت شاہ عبدالغنی ہبھا جردنی (۱۲۹۲ھ) بھی شامل ہیں، جن سے ہندوستان کے کبار علماء و اساتذہ حدیث کو شرف تلمذ حاصل ہے، اور ان کے ذریعہ سارا ہندوستان حدیث کے نور سے منور اور محصور ہو گیا، اور اس وقت کے سارے حلقوں نے درس اور مدارس عربیہ انہیں سے شرف انتساب رکھتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم ناٹوی، (بانی دارالعلوم دیوبند) ان کے نامور تلامذہ میں سے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے تلامذہ کبار میں مولانا محمد عیجی کانڈھلوی، اور حضرت مولانا خلیل احمد

---

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ)..... جوان کے صحیفہ تجدید اور کتاب زندگی کا ایک اہم اور روشن باب ہے۔ (تاریخ ذوق و عزیمت، جلد تجھ، ص: ۱۲۹) اور ان کے جائشیں فرزند اکبر سراج الہند و مدرسہ الہند مولانا شاہ عبدالعزیز محمد ثلوی کے شاہ صاحب کے خصوصی کاموں کی توسیع و تکمیل میں حدیث کی نشر و اشاعت اس کے درس و اجازت کے سلسلہ کا احیاء، اس کے حلقوں نے درس کا اجراء، اساتذہ حدیث، اشاعت و تبلیغ قرآن کے بعد جگہ دی ہے، اور پھر اس کے بعد پہ عہد اڑات اور درس حدیث کے امتداد کو بیان کرتے ہوئے اس سلسلہ وریں کو محدث الحصر علامہ انور شاہ کشیری، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد فی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا محمد زکریا کانڈھلوی شیخ الحدیث مظاہر العلوم سہار پور تک پھیلایا ہے، جن کے تلامذہ کے ذریعہ یہ فیضان عالم گیر ہو چکا ہے، اور دیگر مہر میں پھیلی ہوئیں، علم حدیث کی درسگاہیں ان عظیم اساتذہ حدیث کے قسط ولی اللہی درسگاہ سے انتساب رکھتی ہیں۔ (محفوظ)

(۱) ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ: ۳۵۸۔ (۲) ایضاً: ۳۵۹۔

صاحب سہارپوری کے تلامذہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا کانڈھلوی مصنف اوجز المساک وغیرہ کا نام لینا کافی ہے، مولانا محمد قاسم صاحب کے تلامذہ میں مولانا احمد حسن صاحب امر وہی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے تلامذہ میں مولانا سید انور شاہ کشمیری اور مولانا سید حسین احمد مدینی کا نام اور کام محتاج تعارف نہیں، شاہ صاحب کے علوانساد، عموم فیض اور باندی مرتبہ کے لیے ان کے شاگرد رشید مولانا حسن بن سجی ترہتی کی مشہور کتاب "الیانع الجنی فی أسانید الشیخ عبد الغنی" کا مطالعہ معلومات افزاؤ بصیرت افزودے۔ (۱)

### دارالعلوم دیوبند

جهاں تک علماء کا تعلق ہے ان کو رسوخ فی الدین، زہر و تقویٰ، ایثار و اخلاص، دینی غیرت و محیت اور اس کی راہ میں قربانی کے میدان میں عالم اسلام کی سب سے طاقتور دینی شخصیت اور عضقر اروپیا جاسکتا ہے، لیکن اس علم و بربریت اور غیر معمولی سنگدلی اور بے رحمی کی وجہ سے جس کا مظاہرہ انگریزی حکومت نے مسلمانوں کے معاملہ میں کیا تھا جن کو وہ ہے کے خدر کا اولین رہنمای اور حقیقی قائد تسلیم کرتی تھی نیز عیسائیت کی ترویج و اشاعت میں حکومت کی سرگرم جوشی اور مغربی تہذیب کی خواہ میں غیر معمولی تیزی کے ساتھ مقبولیت اور مسلمانوں کے عقائد اور اخلاقی و معاشرت میں اس کے اثرات کی وجہ سے ان لوگوں کے اقدام کے بجائے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا، انہوں نے اس کی فکر شروع کی کہ دینی چذبہ، اسلامی روح، اسلامی زندگی کے مظاہر اور تہذیب اسلامی کے جتنے بچے کچھ آئا رہا تھا رہ گئے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے، اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کے لیے قلعہ بندیاں کر لی جائیں، اور پھر ان قلعوں میں (جن کو عربی مدارس کے نام سے پکارا گیا

(۱) تاریخ دعوت و عزیمت، حصہ چھم، ص: ۲۳۶۱: (الیانع الجنی ڈاکٹر ولی الدین عدوی کی تحقیق کے ساتھ منظر عام پر آچکی ہے۔ (م)

ہے) مبلغ اور داعی تیار کئے جائیں، اس عظیم اصلاحی اور تعلیمی تحریک کے (جس کا آغاز ۱۸۸۳ء مطابق ۱۴۰۲ھ میں ہوا) سربراہ حضرت مولانا محمد قاسم نافتویؒ (بانی دارالعلوم دیوبند) تھے۔

مولانا سید مناظر احسان گیلانیؒ، مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے تذکرہ ”سوائچ قاسی“ میں لکھتے ہیں:

”کے ۵۵ کی نسل کی ناکامی کے بعد قیال اور آویزش کے نئے محاذوں اور میدانوں کی تیاری میں آپ کا دماغ مصروف ہو گیا، دارالعلوم دیوبند کا نظامی نظام اسی لائج عمل کا سب سے زیادہ نمائیاں اور مرکزی و جو ہری عضور تھا۔ شاہی<sup>(۱)</sup> میدان سے واپسی کے بعد سوچنے والوں نے نہ تو اپس ہو کر سوچنا چھوڑ دیا، اور نہ با تھد پر با تھد رکھ کر پینڈ گئے تھے، بلکہ ”بقاء اسلام اور تحفظ علم دین“ کے نصب اعین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے دماغ بھی مصروف فکر و نظر تھے، اور ان کے قلوب بھی کائنات کی مرکزی قوت سے لوگائے خوبی الطینہ کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے۔“<sup>(۲)</sup>

مولانا محمد قاسم صاحب کے شاگرد شرید اور جانشین مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی (شیخ الدین) نے ایک موقع پر مصنف ”سوائچ قاسی“ ہی سے سوال کرتے ہوئے فرمایا:

”حضرت الاستاذ نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک

(۱) شاہی صلح مظفر نگر دہلی اور سہار پور کی چھوٹی لاکن پر واقع اور ایک آباد قصبہ اور قلعہ کی بڑی منڈی ہے، یہاں کے ۱۸۵۷ء میں حضرت حاجی احمد اللہ مہاجر گئی، مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور ان کے رفقاء نے انگریزوں سے جنگ کی تھی، اور حافظہ صاحبؒ میں صاحب شہید ہوئے تھے۔

(۲) سوائچ قاسی، حصہ دوم، ص: ۲۲۳-۲۲۴

میں چانتا ہوں گے کہ ہنگامہ کی ناکامی کے بعد یادوارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے ذریثہ لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ ہنگامہ کی ناکامی کی حلائی کی جائے۔ (۱)

اس تحریک اور اس کے قائدین نے ہندوستانی مسلمانوں کے اندر دین کی محبت، شریعت کا احترام اور اس کے راستہ میں قربانی کی طاقت اور مغربی تہذیب کے مقابلہ میں زبردست استقامت و صلابت (جو کسی اور اپیسے اسلامی ملک میں دیکھنے میں نہیں آتی جس کو مغربی تہذیب اور مغرب کے اقتدار سے واسطہ پڑا ہو) پیدا کر دی، دیوبند اس رنجان کا علمبردار اور ہندوستان میں قدیم اسلامی ثقافت و تہذیب و تربیت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ (۲)

دارالعلوم کو روز اول ہی سے مختلف کارکن اور صاحب دل اساتذہ کا تعاون حاصل رہا ہے جس کی وجہ سے تقویٰ و طہارت، اخلاص، تواضع اور خاکساری کی روح پورے ماحول پر طاری رہی، ان باکمال مختلف اساتذہ میں مولانا محمد یعقوب نافتوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مفتی عزیز الرحمن دیوبندی، مولانا غلام رسول رسول ولایتی، مولانا انور شاہ کشیری، مولانا سید حسین احمد مدینی، مولانا سید اصغر حسین دیوبندی، اور مولانا اعزاز علی صاحب کا نام ہمیشہ پا دکار رہے گا، دارالعلوم کا دائرة عمل روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتا رہا، اس کی شہرت اور اساتذہ دارالعلوم کے تجربہ علمی، صلاح و تقویٰ اور فتنہ حدیث و فقہ میں ان کی ہمارت خصوصی کے چیزے دور دور چھیل گئے، جس کو سن کر ہندوستان کے مختلف گوشوں سے اور دوسرے اسلامی ممالک سے کثیر تعداد میں طلباء حصول علم دین کے لیے وہاں آئے۔ (۳)

ہندوستانی مسلمانوں کی دینی زندگی پر دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی اصلاحی کوششوں کے نتیاجاں اثرات رونما ہوئے، بدعات و رسوم کی اصلاح، عقائد کی درستی،

(۱) سوانح قائمی، حصہ دوم، ص: ۲۲۶۔ (۲) اسلامیت اور مغربیت کی تفہیش: ۹۰۔

(۳) ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ، ص: ۱۰۲۔

تلیغ دین اور فرق ضالہ سے منا نظرہ وغیرہ میں ان حضرات کی جدوجہد لائق تحسین ہے، متعدد فضلاء نے سیاسی میدان اور طعن عزیز کے دفاع کے سلسلہ میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیئے، اور حق گوئی و بے باکی میں علمائے سلف کی یادتازہ کر دی۔<sup>(۱)</sup>

### دارالعلوم دیوبند کا پیغام اور امتیاز

اس درس گاہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اختلافی نمائشوں کے بجائے توحید و سنت پر اپنی توجہ مرکوزی اور یہ وہ وراثت اور امانت ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ اسامیل شہید اور سید احمد شہید کے وسیلے سے اس کوٹی اور ابھی تک اس کو عزیز ہے۔

دوسری خصوصیت اتباع سنت کا جذبہ اور فکر ہے، تیسرا خصوصیت تعلق مع اللہ کی فکر اور ذکر و حضوری اور ایمان و احتساب کا جذبہ ہے۔ چوتھا عنصر اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ اور کوشش اور دینی حیث وغیرت ہے۔

یہ چار عناصر مل جائیں تو دیوبندی بنتا ہے اگر ان میں سے کوئی غصر کم ہو جائے تو دیوبندیت ناقص ہے، فضلاً دارالعلوم دیوبند کا بھی شعار رہا ہے، اور وہ ان چار چیزوں کے جامع رہے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

### سلسلہ قادر یا راشد یا اور اس میں اجازت و خلافت

بارہویں صدی (بھری) کے تقریباً وسط میں سندھ و بلوچستان میں ایک مشہور شیخ طریقت سید محمد راشد گذرے ہیں، جن کا سلسلہ قادر یہ تھا، میں نے مولانا عبداللہ سندھی سے خود سنایا ہے کہ وہ ان دیار میں علمی اور روحانی طور پر تقریباً وہی مرتبہ اور شہرت رکھتے ہیں، جوان کے معاصر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کا شمال مشرقی ہندوستان میں تھا، سید محمد راشد اپنے والد سید محمد بلقا کے مرید و مجاز تھے، وہ سید عبد القادر جیلانی خاں کے خلیفہ تھے، جو پیر کوٹ سید ہانہ (صلح جنگ سیال پنجاب) میں

(۱) الینا: ص: ۱۳۲-۱۳۳

(۲) کاروان زندگی، حصہ دوم، ص: ۳۱۱

مدفون ہیں، یہ سلسلہ بعد میں بخارا و حلب سے اُج (رباست بھاول پور) پہنچا، جہاں اس سلسلہ کے نومنشائخ مدفون ہیں۔

سید محمد راشد کے تین نامور اور ممتاز خلفاء تھے، دو خود ان کے ساتھ زادے سید صبغۃ اللہ اور سید محمد یا میں، سید صبغۃ اللہ اور سید محمد مس کے درمیان والد نامدار کے تبرکات اور مناصب کی تقسیم اس طرح ہوئی کہ سید صبغۃ اللہ کے سرپرستار خلافت و مشیخت باندھی گئی، اسی وجہ سے وہ سندھیوں میں پیر گاڑو کے شہرہ آفاق لقب سے مشہور ہوئے، یہی پیر صبغۃ اللہ ہیں، جنہوں نے حضرت سید احمد شہید اور ان کے قافلہ کی ۱۲۱۴-۱۲۲۶ھ کے سفر بھارت میں بڑی اولوالعزمی کے ساتھ ضیافت و میزبانی کی، اور انہی کی وجہ سے ان کے متفق پیر کوٹ میں آپ کا تیرہ روز قیام رہا، سید صاحب کے اہل و عیال عمر کوٹ سے آگرہ-۲۷ سال وہیں مقیم رہے اور پھر آپ کی شہادت کے بعد وہیں سے مستقل طور پر ٹوک فتحل ہو گئے۔

سید محمد یا میں کے حصہ میں علم (چندرا) آیا، وہ پیر چندرا کے لقب سے مشہور ہوئے، پیر چندرا کا کتب خانہ ہندوستان کے علمی حلقوں میں مشہور و معروف ہے، ۱۹۲۲ء کے اوائل میں راقم سطور نے مولانا عبد اللہ صاحب کی ملاقات کے لیے جو اس وقت ٹھٹھ پیر چندرا میں مقیم تھے، وہاں حاضری دی، اس وقت اس سلسلہ کے شیخ پیر خیاء الدین زندہ تھے، اور انہوں نے میزبانی فرمائی۔

سید محمد راشد کے تیرے خلیفہ حضرت شاہ حسن تھے، جن سے سندھ، ریاست بھاول پور اور پنجاب میں سلسلہ کی بڑی اشاعت اور عقائد و اعمال کی بڑی اصلاح ہوئی، انہیں کے سلسلہ میں حافظ محمد صدیق صاحب بھر چوہنڈی والے ہوئے، جن کے دو ممتاز ترین خلفاء مولانا سید تاج محمد و امر ویٰ اور حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری تھے، مولانا سید تاج محمد و امر ویٰ پر جلال اور جنہ بہ جہاد غالباً تھا، کرامات جلیلیں کا ان سے ظہور ہوا، کئی بار انگریزوں کو چیخ کیا، اور ان کے مقابلہ میں آگئے، حکومت نے شورش عام کے خطرہ سے طرح دی، حضرت شیخ المہند مولانا محمود حسن صاحب سے بڑا خلاص و اختصاص تھا، ایک

مرتبہ ان کی خدمت میں بڑے اہتمام سے ایک ٹوپی پہنچی، اس پر لکھا "تاجِ محمود"۔

حضرت خلیفہ قلام گھر صاحب پر جمال کا غلبہ تھا، بڑے صاحب سکینت اور تکمیل تھے، چہرہ مبارک گلاب کی طرح سرخ اور آفتاب کی طرح پر انوار معلوم ہوتا تھا، نہایت صاحب و چاہت اور صاحب جمال تھے، عرصہ تک دستور رہا کہ بہاول پور کا کوئی نواب گدی پر بیٹھتا تو حضرت ہی اس کی دستار بندی گویا تاج پوشی فرماتے، تقریباً ناخانہ تھے، میں نے جب ۱۹۳۲ء میں زیارت کی تو اس وقت کسی استاد کے سامنے قرآن شریف کی تصحیح فرمائی ہے تھے، (۱) پنجاب و سندھ کے تمام مشائخ ان کے علوئے مرتبہ،

(۱) صاحب تحریر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حنفی ندویؒ نے خانقاہ دین پور اپنی حاضری اور حضرت دین پوری کے حال و قال کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"۱۹۳۲ء میں جون کی کوئی تاریخ تجھی کر میں کراچی میں سے خان پور کے لیے روانہ پوا، ایک رفقی درس اور دوست مولوی گھر موی سندھی رفقی سفر تھے، جو خود بڑے صاحب صلاح اور قوی الاستعداد نوجوان تھے، مغرب کو ہم لوگ خان پور پہنچے، وہاں سے دین پور کی طرف روانہ ہوئے، غالباً رات ہی کو حضرت کی زیارت ہو گئی، ایسا مشور پھر گالب اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا، نہایت کم گو، اور کم تر نہ رُگ تھے، لفٹنگوں کی فرمائی تو تھیت ریاتی زبانی میں، جو ملتی و سندھی کا جھوٹ ہے، اور جس سے میں بالکل نا آشنا تھا، دین پور کی ویاہی نہیں تھی، وہ تجھی میں دین پور تھا، قادری طریقہ پر ذکر جہر سے مسجد و خانقاہ اور سنتی ہر وقت گل تجھی رہتی تھی، اگر کوئی کسی کو آواز بھی دیتا تو پکارنے والا بھی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہتا اور جواب دینے والا بھی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہی سے اس کا جواب دیتا، اس طرح وہاں ذکر جہر، اور اللہ اللہ کے سوا کوئی اور بیان آواز نہیں میں نہ آتی، یہ ایک چھوٹا گاؤں تھا، جس میں صرف حضرت اور حضرت کے متلقین آباد تھے، یعنی پختہ پختہ مکانات، جن کی تعداد شاید ۵-۶ سے زیادہ نہ ہو، ایک سادہ مسجد، چند خام جھرے ذاکرین کے لیے، کچھ بکروں کے درخت جن کو دیکھ کر عرب کی بادیہ کی بتیاں یاد آتی ہیں، آب و ہوا بھی بادیہ عرب سے ملتی جلیتی تھی، میتھیں خانقاہ کے لیے ایک لٹکر تھا، جس میں خالص سندھی اور بہاول پوری بذریعات کا ایسا کھانا تیار ہوتا جو قوت لا یکوت کا تجھ مصدق تھا، اور ہم اودھ کے ناڑک مزاد جہانوں کے لیے اس کا کھانا بڑا مجابرہ اور امتحان تھا، گری شدت کی تھی، دن بھر لوچتی، رات کی قدر شہنشہ ہوتی ہوئی۔ یہ تعداد دین پور کا نقشہ جمال عمر میں صرف دو مرتبہ جانا ہوا، ایک اسی ۱۹۳۲ء میں دوسرے ۱۹۵۸ء میں اس کے بعد خلیف صاحب کی وفات کے بعد ایک شب کے لیے جانا ہوا..... (پانی اگلے صفحہ پر)

قوت نسبت اور ان کی بزرگی کے قائل تھے، مولانا سید حسین احمد صاحب مدفنی نے خود سے مجھ سے فرمایا کہ ان کو مجھی حضرت خلیفہ صاحب سے اجازت حاصل ہے۔<sup>(۱)</sup>

(پچھلے صفحہ کا بتئی).....حضرت خلیفہ صاحب کی عمر اس وقت (جیون ۱۹۷۳ء ایسا ۱۹۷۳ء میں) بھی تو یہ سال سے تجاوز تھی، مولانا احمد علی صاحب (لاہوری) کا خط آپ کو سنایا گیا جس میں غالباً حضرت سید صاحب (حضرت سید احمد شہید) کی نسبت سے میرا تعارف تھا، حضرت نے سلسلہ میں واٹل فرمایا، اور ذکر قلبی کی تلقین کی، جس وقت رخصت ہونے لگا تو فرمایا کہ ”ان کو سلام کہہ دینا“ میں نہیں سمجھا کہ اشارہ کس کی طرف ہے، صاحبزادہ میراں عبد الہادی صاحب پاس سے گذر رہے تھے، انہوں نے تشریح فرمائی کہ مولانا اشرف علی ٹھانوی کو، مولانا کاظم شنیع خلیفہ صاحب پر رقت طاری ہو گئی، اس سے اس تعلق کا اندازہ ہوتا ہے جو ان دونوں بزرگوں کے درمیان تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مولانا ٹھانوی ایک مرتبہ کراچی سے آتے ہوئے خلیفہ صاحب کی زیارت اور ملاقات کے لیے دینا پور شہرے تھے“ (پرانے چراغ، حصہ اول، جس: ۱۲۹-۱۳۰)

حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نے بذریعہ مکتب حضرت خلیفہ صاحب قدس سرہ کا سلام عرض کیا، جس کے جواب میں عکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی ٹھانوی فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنا راشٹر پیغام دیکھا: ”حضرت خلیفہ صاحب کے پیام سلام سے ان کی یاددازہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کے برکات میں تقاضا عاف فرماؤ، باقی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور دعا چاہتا ہوں، جس کا صیغہ درست دراز سے یہ تجویز کر کر ہے: اللهم کن لنا واجعلنا لک، والسلام“ (پرانے چراغ، ۱/۱۰۶) (جمود)

(۱) پرانے چراغ، حصہ اول، طبع جدید، جس: ۱۷۹-۱۸۰

”سلسلہ قادریہ اشیدیہ میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدینی کو حضرت خلیفہ غلام محمد دینپوری سے، ان کو حضرت حافظ محمد صدیق بھر پوٹھوڑی سے، ان کو حضرت شاہ حسن سے، ان کو حضرت سید محمد راشد سے، ان کو حضرت سید محمد بقاء سے، ان کو حضرت سید عبد القادر جیلانی خاں سے، ان کو حضرت سید محمد صالح سے، ان کو حضرت سید مسیح الدین خاں سے، ان کو حضرت سید حامد گنج بخش خاں سے، ان کو حضرت سید عبد القادر رانی سے، ان کو حضرت سید عبد الرزاک سے، ان کو حضرت سید عبد القادر شاہ لش سے، ان کو حضرت سید حامد گنج بخش خاں سے، ان کو حضرت سید محمد خوش گیلانی حنفی جلی اپنی سے، ان کو حضرت سید مسیح الدین گیلانی اپنی سے، ان کو حضرت سید شاہ میر سے، ان کو حضرت سید علی سے، ان کو حضرت سید مسعود جلی سے، ان کو حضرت سید ابو العباس احمد سے، ان کو حضرت سید صفی الدین صوفی سے، ان کو شیخ العارفین حضرت سید سیف الدین عبدالوهاب سے اور ان کو اپنے والد شیخ المشائخ پیر ان بیرون شیخ شیوخ الطریقہ والشریعہ حضرت سید محمد الدین عبد القادر جیلانی بغدادی سے اجازت و خلافت حاصل ہے۔“ (جمود)

## سلسلہ چشتیہ اور اس سے انشاہ

جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے مؤسس  
وابانی ہیں، خواجہ فرید الدین اس کے مجدد اور اس سلسلہ کے آدم بانی ہیں، آپ ہی کے دو  
خلفاء سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی (اولیاء) اور حضرت شیخ علاء  
الدین علی صابر پیران کلیر کے ذریعہ یہ سلسلہ ہندوستان میں پھیلا اور ان کے خلفاء والل  
سلسلہ کے ذریعہ اب بھی زندہ و قائم ہے، سلطان المشائخ حضرت شیخ نظام الدین پہلے  
چشتی شیخ ہیں، جن کے اثرات ان کی زندگی میں سارے ہندوستان میں پھیلے اور جنہوں  
نے ہندوستان کے اسلامی معاشرہ اور ہر طبقہ کو متاثر کیا، اور حکومت سے لے کر عوام وغیرا  
تک کو اپنے علقہ عقیدت واڑ میں لیا، اسی کے ساتھ وہ ہندوستان کے پہلے شیخ طریقت  
اور مرشد روحانی ہیں، جن کے حالات سب سے زیادہ تفصیل ووضاحت اور استناد کے  
ساتھ ملتے ہیں، ان کے مشائخ نے نہ کوئی تصنیف کی، ان کے خلفاء نے اپنے شیوخ  
کے مخطوطات و حالات جمع کئے، نہ انہوں نے اپنے شیوخ کے مخطوطات و حالات کا کوئی  
مجموعہ تیار کیا، لیکن ان کے مخطوطات و حالات جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا گیا۔

شیخ کبیر علاء الدین علی بن احمد صابر نسباً اسرائیلی تھے، ترک و تجرید اور زہد و مجاہدہ  
میں ان کی نظریہ تھی، پیران کلیر میں عرصہ تک عبادت و افادہ میں مشغول رہ کر ۱۳/رمضان  
الاول ۶۸۹ھ یا ۱۲۹۰ھ میں وفات پائی، حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی آپ  
ہی کے خلیفہ ہیں، عجیب بات ہے کہ شیخ علی احمد صابر کے حالات سے معاصر تذکرے  
اور تاریخیں خاموش ہیں، سیر الاولیاء میں امیر خورونے ان کا تذکرہ ضمناً اس طرح کیا  
ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو شہید ہے کہ یہ حضرت شیخ علی احمد صابر پیران کلیر کا  
تذکرہ ہے یا اسی نام کے کسی اور بزرگ کا، امیر خور و لکھتے ہیں:

”بندہ نے اپنے والد رحمہ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ ایک عالی  
مرتبہ درویش تھے، جن کو شیخ علی صابر کہتے تھے، درویشی میں راجح

اور صاحب نسبت و تاثیر قبیہ دیگری کے رہنے والے تھے،  
حضرت شیخ فرید الدین سے نسبت ارادت رکھتے تھے اور آپ  
نے ان کو اجازت بیعت دے رکھی تھی۔ (۱)

معاصر یا زمانہ قریب کے نذکروں میں خواہ ان کا تذکرہ بالکل شہ ہو یا سرسری و  
محقق ہوان کے سلسلہ کے مشائخ کبار کے حالات ان کا علوشان، ان کے علوم و  
مقامات، اہل بصیرت کا اس سلسلہ کی مقبولیت پر اتفاق اور عالم میں اس کے فیوض و  
برکات و آثار شاہد ہیں کہ بانی سلسلہ نہایت عالی مقام، عالی نسبت اور عند اللہ مقبول  
تھے، اس سے بڑھ کر خود تاریخ کی شہادت بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ تاریخ کی یہ پہلی  
غفلت اور چوک ہے، زمانہ سابق میں بھی بہت سی باکمال شخصیتیں تاریخ کی تیز  
نگاہوں سے نجکیں اور زاویہ ثیوں میں رہ گئیں۔

اس سلسلہ (صحابہ چشتیہ) میں یہ رئے نامور مشائخ، عارف و محقق و مصلح پیدا  
ہوئے، مثلاً: حضرت خدوم احمد عبد الحق رولوی جن کی ذات با برکات کو بعض اہل نظر  
نے نویں صدی کا مجدد بھی شمار کیا ہے، حضرت (شیخ المشائخ) شیخ عبدالقدوس گنگوہی،  
شیخ العرب والجم حضرت حاجی امداد اللہ جہاں جرگی، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد  
گنگوہی، قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی (بانی دارالعلوم دیوبند) حکیم  
الامامت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت  
مولانا خلیل احمد سہار پوری، حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری، حضرت مولانا حسین احمد  
دردی، حضرت مولانا محمد الیاس کانڈہلوی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کانڈہلوی۔  
ہمارے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ سے حفاظت و تجدید دین کا عالمگیر  
کام لیا، اور اس وقت سب سے زیادہ وسیع، متحرک و فعال بھی سلسلہ ہے، دارالعلوم  
دیوبند و مظاہر العلوم کی تعلیمی خدمت و رہنمائی تھانوی کی تصنیفات و مواضع سے اور پھر

آخر میں مولانا محمد الیاسؒ کی تحریک دعوت و تبلیغ سے اس سلسلہ کے فوض عالمگیر ہوئے، پروفیسر خلائق احمد ناظمی نے تاریخ مشائخ چشت میں صحیح لکھا ہے کہ ”گذشتہ صدی میں کسی بزرگ نے چشتیہ سلسلہ کے اصلاحی اصولوں کو اس طرح جذب نہیں کیا جس طرح مولانا محمد الیاس نے کیا تھا“۔<sup>(۱)</sup>

آج بھی رائے پور میں حضرت مولانا عبدالقدار صاحب کی خانقاہ سلسلہ چشتیہ کی قدیم خانقاہوں کی یکسوئی، سرگرمی پر وحق کی مشغولی اور درود و محبت کی گرم پاڑ اوری کی پاڑ تازہ کرتی ہے۔<sup>(۲)</sup>

سلسلہ احسانیہ (آدمیہ مجددیہ نقشبندیہ) سے انتساب و اجازت  
حضرت سید ادم بنوری<sup>(۳)</sup> اگرچہ حضرت مجدد کے طریقہ عالیہ کے خوشہ چین اور ان کے آخوند تربیت کے پروردہ ہیں، لیکن اپنی استعداد عالی اور فطرت ارجمندی کی بنابر سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ میں بھی ایک خاص رنگ کے حامل اور ایک ذیلی طریقہ کے بانی ہیں، جس کو بہت سی مجتہدانہ خصوصیات کی بنا پر ”طریقہ احسانیہ“ کے نام سے موسوم کیا

(۱) تاریخ مشائخ چشت صفحہ ۲۲۳۲، (۲) ہوتاریخ دعوت و عزیمت، حصہ سوم: ۲۹، ۳۷

(۲) شیخ عارف ولی کبیر حضرت ادم بن اسماعیل بن بیہودہ بن یوسف بن یعقوب بن حسین حسینی کاظمی بنوری سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ کپار میں ہیں، حضرت مجدد الف ثانی امام احمد بن عبد اللہ الحادی پیرہندی سے ان کی خدمت میں ایک مدترہ کر طریقت کی تحصیل کی، کسی سے علمی تحصیل نہیں کی تھی، اس طرح آپ اپنی تھی، ۲۲ شوال ۵۵۴ھ میں مدینہ منورہ میں جہاں ایک سال پہلے بھارت کی تھی، وفات پائی، اور جنت ابیق میں قیسیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس مدفن ہوئے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی دروی کھتے ہیں: ”ان سے لا تحداد خلق خدا فیضیاب ہوئی، کہا جاتا ہے کہ ان کے پاتھ پر چار لاکھ مسلمانوں نے ابتداء سنت مجددیہ پر بیعت کی، اور ایک لاکھ طالبین خدا ان کے ذریعہ علم و معرفت کے پانڈ مقام پر پہنچے، کہا جاتا ہے ان کی خانقاہ کسی دن ایک ہزار آدمیوں سے خالی نہیں رہتی تھی، اور سب کا کھانا آپ اپنی کلکر سے آتا، اور سب یکسوئی کے ساتھ روحانی و بالغی استفادہ میں مشغول رہتے“۔ (المرتضی: ۲۰۲، بارہوسم) (مجموعہ)

گیا ہے، حکمت الہی کی یہ جلوہ گرفتی تھی کہ جس خانوادہ عالیٰ کی بنیاد ایک امی کے ہاتھ سے پڑی اس کے حصہ میں ہندوستان کے ممتاز ترین علماء محدثین، اساتذہ وقت، ناشرین کتاب و سنت، داعی و مصلح، عظیم مدارس ویسیہ کے بانی اور مصنف و محقق آئے، اور وہ اس بارے میں بھی اپنے جدا مجدد کی سنت کے پیرو اور ان کی میراث کے وارث ہیں، حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز، داعی الی اللہ و مجاہد فی سعیل اللہ حضرت سید احمد شہید اور مولانا محمد اسماعیل شہید، مند الہند حضرت شاہ اسحاق دہلوی، بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، عالم ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی اسی سلسلہ احسانیہ کے شیوخ کبار کے ذریعہ طریقہ مجدد نقشبندیہ میں داخل اور اس میں صاحب اجازت و خلافت ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی جیسے طرق تصوف کے بصر اور نسبتوں کے رمز شناس حضرت سید آدم بوری کے متعلق پڑے بلند الفاظ لکھتے ہیں اور ان کو سلوک و احسان کی فن کے مجہد اور مستقل سلسلوں کے پائیوں میں شمار کرتے ہیں۔

حضرت سید آدم بوری کے خلفاء کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ان کا استقصاء مشکل ہے، نہہ الخواطر میں حسب ذیل حضرات کے نام آئے ہیں، جن کو حضرت سید آدم بوری سے نسبت وارد اوت اور ان میں بعض کو خلافت و اجازت حاصل تھی، دیوان خواجہ احمد نصیر آبادی (م ۱۰۸۸ھ) شیخ بازیزید سوری (م ۱۰۹۰ھ) شاہ فتح اللہ سہار پوری (م ۱۱۰۰ھ) شیخ سعد اللہ بلخاری لاہوری (م ۱۱۰۸ھ) لیکن ان کے سلسلہ کی اشاعت حسب ذیل چار خلفاء سے ہوئی، جوان کی مجہد انشہ تربیت و تعلیم کا شمشون اور ان کی یادگار تھی، حضرت سید شاہ علم اللہ حشی (۱۰۳۳-۱۰۹۲ھ) حضرت شیخ سلطان بلیاوی، حضرت حافظ سید عبد اللہ اکبر آبادی، شیخ محمد شریف شاہ آبادی۔

حضرت شاہ علم اللہ (۱) کے خاندان میں سلسلہ احسانیہ مسلسل طریقہ پر چاری رہاء

---

(۱) حضرت سید شاہ علم اللہ حشی عقیدہ توحید میں پڑے مصلح اور اتباع سنت میں بے نظیر عالم و شیخ طریقت تھے، حضرت سید احمد شہید کے جدراجع اور صاحب کتاب (باقی اگلے صفحہ پر)

جس میں آپ کے فرزند چہارم حضرت سید محمد (۱۱۵۶ھ) ان کے صاحبزادہ حضرت سید محمد عدل عرف شاہ لعل صاحب (۱۱۹۲ھ) حضرت سید محمد صابر بن سید آیت اللہ بن شاہ علم اللہ (۱۱۹۳ھ) حضرت شاہ ابوسعید بن سید محمد ضیاء ابن سید آیت اللہ بن طم ان اللہ (۱۱۹۴ھ) حضرت سید محمد واضح بن سید محمد صابر (۱۲۰۱ھ) مولانا سید محمد ظاہر حنفی (۱۲۷۸ھ) مولانا سید خواجہ احمد بن یاسین نصیر آبادی (۱۲۸۹ھ) اور حضرت شاہ ضیاء النبی (۱۳۲۶ھ) بڑے پایہ کے بزرگ اور عالی مرتبہ مشائخ گذرے ہیں، جن سے ہزارہ انسانوں کو ایمان و احسان کی دولت عمل بالشریعت اور اتباع سنت کی توفیق حاصل ہوئی۔

(۱) حضرت سید آدم بنوری کے دوسرے خلیفہ اجل حضرت شیخ سلطان بیلوی تھے، انہوں کہ ان کے حالات و مظہرات محفوظ نہیں رہے، اب اس تقبیہ میں ان کا خاندان آباد ہے، تنائی الحرمین سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید آدم کے خلافے کبار میں تھے، اکثر ان کا نام حضرت شاہ علم اللہ صاحب کے ساتھ آتا ہے۔

حضرت سید آدم بنوری کے تیسرا خلیفہ اجل جن سے ان کے سلسلہ کی سب سے زیادہ اشاعت ہوئی، حافظ سید عبد اللہ کبر آبادی تھے، حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی (۱۳۱۳ھ) انہیں کے خلیفہ اور تربیت یافتہ تھے (۲) حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کا سلسلہ جس میں

---

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ).....حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسینی ندوی یعنی نانا حضرت شاہ ضیاء النبی کے بعد ساؤں ہیں، ان کی سنتی تکیر کلاں، رائے بریلی، دائرہ شاہ علم اللہ کا نام سے موسوم اور علم و ذرستے منحور جگہ ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدفنی نے بیہاں شریف لاکر اپنے جی گئے اور پیہاں ایک چلدگزار نے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ (لفظ: حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسینی)  
تصحیل حالات کے لیے ملاحظہ ہو "ذکرہ شاہ علم اللہ حسینی"، مصنف: مولانا سید محمد حسینی (جمود)

(۱) بیاناب کھتمیاً ضلع بیکو اسرائیل کے نام سے معروف مونگیر کے مقابل دریا کے دوسرے کنارہ پر ہے۔

(۲) تیوں بزرگوں کے لیے ملاحظہ ہو: "انفاس العارفین"، تصنیف: حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی

حضرت سید احمد شہید اور پھر ان کے توسط سے حضرت حاجی عبدالرحیم شہید ولایتی، میاں، بی فور مجھ تھے جما نوی، اور ان کے توسط سے شیخ العرب والجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی، اور ان کے خلافاء مولانا محمد قاسم نانو توی، حضرت مولانا شیداحمد گنگوہی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، پھر حضرت مولانا شیداحمد گنگوہی کی وساطت سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری، حضرت مولانا غلیل احمد سہارپوری، اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی۔

حضرت شاہ عبدالرحیم کے خلافاء میں حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری، اور حضرت مولانا غلیل احمد صاحب کے خلافاء میں حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی، بانی سلسلہ تبلیغ نظام الدین اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب کو سلسلہ اصفیہ مجددیہ سے اشتاسب ہے، اور وہ اس طریقہ میں مجاز و صاحب ارشاد ہیں۔<sup>(۱)</sup>

### حضرت سید احمد شہید کے طریقہ و سلسلہ سے واپسی

حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی فرماتے تھے کہ حضرت سید احمد شہید وہ بزرگ تھے جن کی وجہ سے ہم لوگ مسلمان ہیں اور اسلام پر پورا عمل کر رہے ہیں۔<sup>(۲)</sup> انہوں نے لکھا ہے کہ ”اگر یہ صحیح ہے (اور یقیناً صحیح ہے) کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس دین میں کی حفاظت کا کلیل اور ذمہ دار ہے تو ضرور بالضرور اس عالم اسباب میں قدرت اس کے لیے اسباب و ذرائع مہیا کرتی رہے گی اور اگر یہ مسلم ہے (اور بے شک مسلم ہے) کہ ہر دن ہب اور دین آسمانی کے لیے افراد، اہل غلو اور تحریف اہل فساد و بدیع، تخریب اور استیصال کے باعث ہیں تو ہمیشہ ایسے لوگوں کے شدت و نینے اور ان کی تاریکیوں کو موجو کرنے کے لیے ایسے ایسے اہل بہت و درع پیدا کرتی رہے گی جو کہ دین محمدی کے سر برپا بخوبی کو ہر قسم کے آفات سے محفوظ کرتے رہیں، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جناب

(۱) تاریخ دعوت و عزیمت، جلد چارم طبع قدیم، ص: ۳۲۹-۳۹۶

(۲) خطبات ملی میاں، جلد چشم، ص: ۲۲۰، فربید بک ڈپو، قنی دہلی

رسول اللہ ﷺ نے فرمادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین میں ہر صدی کے سرے پر ایسی جستیاں پیدا کرتا رہے گا جو کہ دین کی تجدید کرتی رہیں گی اور کسی قسم کی دین میں کمزوری کو روانہ رکھیں گے، ان بلا و شریقیہ میں تیر ہوں صدی میں اگر کوئی ہستی اس مجددیت کا مظہر ہو سکتی ہے تو یقیناً وہ حضرت امام الائمه، مرشد الامم الحنفیۃ قطب العالم حضرت مولانا سید احمد شہید رائے بریلوی قدس سرہ المعزیز کی عدیم النظر ہستی ہے، جس نے جہالت اور گمراہی کی تاریکیوں کو ان دیوار سے نبیت و نایوں کروایا، اور اہل بدعت و فساد کی رسم قبیحہ کو اکھڑا کر پھیل دیا، اور عملی سرگرمیوں اور اخلاق و لٹھیت کی مسائی سے نفوں انسانیہ کو زندہ کروایا، مسلمانوں میں جو سیاسی نظام ہونا ضروری اور مفید ہے، اس کی بنیادیں استوار کروں، اور وہ حقیقی خدمات ملت بیشاع کی سیاست وغیرہ میں انجام دیں، جن کی نظریہ سلف میں بھی کم پائی جاتی ہے، اس مقدس ہستی کے نیوضات اور آثار عظیمہ اتنے نہیں ہیں کہ صفات و اوراق ان کا احاطہ کر سکیں، مگر اہل توفیق و سداد نے اپنی اپنی ہمت کے موافق مختلف تالیفات کے ذریعہ اپنے لیے صدقہ چاریہ اور پسمندیوں کے لیے اسوہ حسنة مہیا کر کے خوب من حنات میں پیش بہاذ خیرہ کا اضافہ کیا۔ (۱)

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (مولانا سید حسین احمد مدھی کے شیخ و مری) کے

الظاظ میں:

”مجھ کو حضرت سید احمد صاحبؒ کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی محبت و عقیدت ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے پیر شاہ عبدالعزیز صاحبؒ سے بڑھ کر ہیں، باقی خدا جانے کوں بڑھ کر ہے، لیکن میرے ول میں ہمیشہ ہمی آتا ہے، میں اپنے قلب کا مختار نہیں ہوں، یہ کچھ خدا کی طرف سے ہے، پھر میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہی جانے، میں مجبور ہوں، شاہ صاحبؒ کے پہلے بھی اس

(۱) سیرت سید احمد شہید، پہلا ایڈیشن، اثر: مولانا سید ابو الحسن علی ندوی

خاندان میں انتباع سنت تھا، مگر حضرت نے نہایت درجہ کا انتباع کیا، ہندوستان میں نور پھیلا دیا۔<sup>(۱)</sup>

اس زمانہ میں اللہ کے بیہاں آپ کا طریقہ سب سے زیادہ مقبول تھا، اور جناب رسول اللہ ﷺ کی خوشی ان دیوار مشرقیہ میں اس میں محصر تھی، چنانچہ حضرت حاجی عبدالرحیم صاحب ولایت جو اپنے وقت کے جلیل القدر شیخ و سالک اور سلسلہ چشتیہ میں مجاز تھے، اور آپ کے میتکروں، ہزاروں مرید تھے، فرماتے تھے:

”مجھے کسی سے سلوک میں رجوع کی ضرورت نہیں، لیکن رسول اللہ ﷺ کی خوشی اسی میں پاتا ہوں کہ میں سید صاحب سے بیعت ہو جاؤں۔“ (روایت حضرت مولانا سید حسین احمد رفی) <sup>(۲)</sup>

### حضرت سید صاحبؒ کی طرف مشائخ و علماء کا رجوع

سلسلہ چشتیہ صابریہ کے دونا مورث حاجی عبدالرحیم صاحب ولایت اور آپ کے خلیفہ میاں جی نور محمد صاحب چنگھا نوی آپ سے بیعت ہوئے، اور آپ کے رنگ میں رنگ گئے، حاجی صاحب بیعت کے بعد ہمیشہ خدمت میں رہے، بیہاں تک کہ بالا کوٹ میں شہید ہوئے، اس سلسلہ کے دوسرے حضرات مولانا محمد قاسم صاحب ناؤ توئی، مولانا شیداحمد صاحب گنگوئی، مولانا محمد و حسن صاحب دیوبندی اور ان کی جماعت کا تعلق تو آپ سے ایسا تھا جیسا کہ عاشق و معشوق سے ہوتا ہے، شاہ ابوسعید صاحب جو خاندان نقشبندیہ مجددیہ کے سلسلہ الذریب کا ضروری حلقة اور حضرت شاہ غلام علی صاحب کے خلیفہ تھے، عرصہ تک آپ کی خدمت میں رہے، اور استفادہ کیا، سلسلہ قادریہ کے مشہور شیخ سید صبغت اللہ بن سید محمد راشد نے جن کا سلسلہ سندھ میں بہت مشہور و معمور ہے، آپ سے استفادہ کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی حیات

(۱) سیرت سید احمد شہید، از: مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، ص: ۵۳۸

(۲) سیرت سید احمد شہید، از: مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، ص: ۵۳۹

میں آپ کے خاندان کے اہل علم و فضل نے آپ سے بیعت کی، مولانا محمد اسماعیل صاحب، مولانا عبدالحی صاحب، مولانا محمد یوسف پھلتی کے علاوہ شاہ اسحاق صاحب و مولانا یعقوب صاحب نے استفادہ و باطنی تعلیم حاصل کی، اس کے علاوہ تمام مشائخ و علماء آپ کی عظمت و تقویٰت پر متفق العقیدہ و متفق اللسان ہیں، آپ کی مجتہد اہل سنت و صحیح الخیال جماعت کا شعار اور علامت بن گئی ہے، آپ کے متعلق وہی کہنا بالکل صحیح ہو گا جو بعض اہل علم نے آپ کے ہم نام امام احمد کے متعلق کہا ہے: "اذا رأيَتِ الرَّجُلَ يَحْبُّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سَنَةٍ" (جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کو احمد بن حنبل سے مجتبی ہے تو سمجھ لو کہ وہ سنت کا قائم ہے) (۱)

### شیخ و مرشد حضرت مولانا نارشید احمد گنگوہی

عالم رباني، شیخ کامل محدث جلیل حضرت مولانا نارشید احمد گنگوہی ایک طرف شریعت و طریقت کے مجمع البحرين، محدث و فقیہ، ناشر سنت، ماہی بدعت، حدیث کے بلند پایہ مدرس و شارح، تصوف و سلوک میں مجتہد امام مقام پر فائز، اعلانے کلمۃ اللہ اور جہاد کے جذبہ سے سرشار، دو عظیم مدرسون (وارالعلوم دیوبندی، مظاہر علوم سہارپور) کے سرپرست، استاذ الاسلام، اور شیخ الشیوخ تھے، ایک طرف وہ تربیت و سلوک کی تعلیم دیتے اور اس سلسلہ میں مشائخ چشت سے (جن سے وہ نسبت باطنی رکھتے تھے) ذوق، معرفت اور درد و مجتبی کی دولت سے ان کو حصہ وافر ملا تھا، وسری طرف وہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ (جن سے ان کو حضرت سید احمد شہیدؒ کے ذریعہ سے اشتاباب) (۲) حاصل تھا، تکمیل و وقار،

(۱) سیرت سید احمد شہید، جلد دوم، ص: ۵۵۰

(۲) مولانا نارشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں: سب مشائخ طبیب امت ہیں، اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں کے اغیار سے انہوں نے طریق رکھے ہیں، سب کا مآل ایک ہے اور سب کا خلاصہ اجماع سنت ہے بعد لوگوں نے بدعتیں داخل کر دی چیزیں، ان کے مجرم و حضرت سید صاحب ہوئے مولانا نے دوسرے موقع پر مصلحین طریقت میں شیخ عبدالقدور جیلانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، مجدد الف ثانی، اور حضرت سید احمد شہید کا نام لیا ہے ..... (باتی انگلے صفحہ پر)

استقامت علی الشریعہ اور اتباع سنت کی دولت سے مالا مال تھے، ایک طرف وہ اپنے زمانہ کے مسلم فقیہ تھے، جو عام طور پر فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیتے تو سری طرف حدیث کی تدریس میں ان کو وہ مقام حاصل تھا اور اس میں ان کا شغف اتنا بڑھا ہوا تھا کہ گنگوہ طالبان علم حدیث اور فضلاً تے دراس کا طبادا وی مبنی گیا تھا۔

جہاں تک عقائد و مسلک کا تعلق تھا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اور حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید کے پورے قبیع ان کی ولایت و تقویت کے قائل و معتقد اور تقویتی الائیمان کے لیے سینہ پر تھے، یہ گوناگوں اور بظاہر متصدیار رنگ ان کی ذات میں پہلو پہلو نظر آتے ہیں، طبیعت کی یکسوئی اور گوشہ گیری کے باوجود وہ مسلمانوں اور اسلام کی فکر سے خالی اور ان مفید کاموں اور اداروں کی معاوحت و سرپرستی سے بے تعلق نہیں تھے، جوان کے خلص و مستول، رفقاء کار یا شاگروں نے علم دین کی اشاعت اور تبلیغ و دعوت کے لیے قائم کئے وہ بیک وقت دار احکوم و یوبند، مظاہر علوم سہارپور کے سرپرست بھی تھے، اور ان کے اخلاقی و روحانی گمراں اور مرتب بھی۔ (۱)

(پچھے صفحہ کا باقیہ) اور کئی موقع پر سید صاحب کو ان اکابر کے ساتھ مصلحین میں شمار کیا ہے۔  
(سیرت سید احمد شہید، جلد دوم، ج: ۵۵۵-۵۵۷)  
اور یہ بھی فرمایا کہ ”بعد کے لوگوں نے بد عقیل و داخل کردی تھیں، ان کے بعد حضرت سید صاحب (سید احمد شہید) ہوئے جس سے جس کو عقیدت ہواں کے طریقہ میں وہ داخل ہو جائے۔ حضرت (سید صاحب) نے نہایت درجہ اتباع (سنت) کیا، ہندوستان میں تو پھیلایا، جوان کی محبت میں ایک گھری بیٹھا اس میں وہی رنگ آگیا، جس میں زیادہ اتباع ہو وہی ولی کامل ہے، میر اتو عقیدہ ہیکی ہے کہ سید صاحب اپنے پیر سے بڑھ کر ہیں۔

میرے دادا پیر میاں بھی تو رنجمن صاحب حضرت کے مرید تھے، اور ان کے پیر حضرت حاجی عبدالرحمٰن صاحب بھی سید صاحب کے مرید تھے، یہ دو طریقے حضرت کے سلسلہ کے ہیں، مجھ کو سب سے زیادہ حضرت سے محبت و عقیدت ہے، میں اپنے قلب سے مجبور ہوں، یہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی بات ہے۔“ (روایت کروہ: حضرت مولانا حکیم سید عبدالحی حنفی اور اللہ مرقدہ)  
بحوالہ: ولی اور اس کے اطراف، ج: ۱۰۲-۱۰۵، اطبوعصرار و اکیڈمی، ولی (محموٰد)  
(۱) چودھویں صدی ہجری کے اوائل میں حفاظت دین، اشاعت علم..... (باقیہ آنکھہ صفحہ پر)

حضرت مولانا شید احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جیسے مخلص و جاں ثار، مطیع و منقاد، صاحب علم و فضل اور بامکال مریدین و خلفاء عطا فرمائے، ویسے (ہمارے ناقص علم میں اور کم سے کم اس دور میں) کم کسی شیخ طریقت اور مردمی روحانی کو ملے ہوں گے ان ممتاز ترین مریدین و خلفاء میں جس کے حالات سننے یا تذکرہ پڑھنے معلوم ہوتا ہے کہ بس بہی فرد مرید اور مرید رشید تھا، اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی ذات سے اس پر آشوب دور میں کہ الحاد و بے دینی کے ماحول میں باول امنڈر ہے تھے، اور فتنت پانی کی طرح بس رہے تھے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے قلوب کو زندہ، دماغوں کو صیقل اور اخلاق کو آراستہ کیا، کسی نے علم حدیث کی نشر و اشاعت اور انسان تذہ کی تعلیم و تربیت کا سبق پیاسا پر کام کیا، کسی نے تحریر عقائد اور اصلاح رسوم کا فرض انجام دیا، کسی نے قلوب کو عشق الہی اور حب نبوی سے نرم گرم کیا، اور ان کے ذریعہ سے ہزاروں بندگان خدا درجہ احسان کو پہنچ، کسی نے جذبہ چہاد و حریت کا صور پھونکا، اور اعلائے کلمۃ اللہ کی کوشش کی، کسی نے تصنیف و تالیف کے ذریعہ دین علم کی خدمت کی، ان میں سے ہر ایک اپنے رنگ میں کامل اور ہمارے پورے احترام و توقیر کا مستحق ہے۔<sup>(۱)</sup>

مولانا شید احمد گنگوہی کے تعارف میں ہم یہاں وہ عبارت لفظ کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں جو تذکرہ علمائے ہند کی شاہکار کتاب "نزہۃ الخواطر" سے مأخوذه ہے، جو اعتدال و توازن اور عدل و انصاف اور حقیقت بیانی میں سیرت و سوانح پر لکھی گئی کتابوں میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے:

(پیچھے صفحہ کا باقیہ) دعوۃ الی اللہ اور و شرک و بدعت کا ایک پڑا مرکزوہ طلاقہ بن گیا، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ سے علمی و معنوی اشتاسب رکھنے والے بزرگوں اور ان کے سلسلہ درس سے مستفید ہوئے اور حضرت سید احمد شہید قدس سرہ اور ان کی جماعت کا سلسلہ رکھنے والے مشائخ و علماء نے جاہجاویی مدرسے اور خانقاہیں قائم کی تھیں، کچھ ہی عرصہ بعد اس پورے سلسلہ کی قیادت و سرپرستی اسی سلسلہ کے ایک عالم ربانی، شیخ کامل، محدث جملی حضرت مولانا شید احمد صاحب گنگوہی کے حصہ میں آئی۔ (مقدمہ حیات خلیل: ۸)

(۱) مقدمہ حیات خلیل (مؤلفہ مولانا محمد علی حنفی) از: مولانا سید ابو الحسن علی ندوی (جس: ۹-۱۰)

”ایتاع شریعت، پیروی سنت اور سلوک و معرفت میں بڑے بلند مرتبہ کے مالک اور بڑی خصوصیات کے حائل تھے، بدعت کی مخالفت، شعائر اسلام کا احترام، سنت کی ترغیب، حکم شرعی کی تلقین اور عزیت پر عمل کرنے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، حق کے معاملہ پر عمل کرنے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، حق کے معاملہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، منکرات پر کبھی خاموش نہ رہتے، دین کے مسئلہ میں ادنی تحریف برداشت نہ کرتے، شریعت کے معاملہ میں کبھی مدعاہت گوارہ نہیں کرتے۔

تواضع ان کی فطرت، حق ان کی علامت اور نرمی ان کا شیوه تھی، صحیح بات معلوم ہونے پر اپنی رائے واپس لینے میں انہیں کوئی عار محسوس نہ ہوتا تھا، علم و عمل، تعلیم و تربیت، ترقیہ نفس، احیائے سنت اور جو بدعت میں وہ ہمیشہ آگے رہتے تھے۔  
 ۹ زیماں ایالاتی ۲۰۱۳ء مطابق ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء کو وفات ہوئی۔ (۱)

### استاد و مدرس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی

دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جو بعد میں شیخ

(۱) ابصار، ص: ۳۰۔ حضرت مولانا شیداحمد گنڈوی کے خلفاء و مستر شدین میں جن علماء و مشائخ نے مرحیث حاصل کی ان میں ۱۔ حضرت شاہ عبدالرحمیم صاحب رائے پوری (شیخ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری) اور ۲۔ حضرت مولانا علیل احمد صاحب سہار پوری (شیخ حضرت مولانا محمد الیاس کانڈہلوی) و حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کانڈہلوی (شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور ۳۔ حضرت مولانا جسین احمد مدینی کوئیاں مقام ملا، اور ان کے فیروض و کارناموں کے اثرات دنیا کے چھپے میں پکجے۔ (محفوظ)

الہند کے نام سے مشہور ہوئے ہندوستان کی جنگ آزادی، اگریزی حکومت کے خلاف صحف آرائی اور ایک آزاد، منصفانہ اور دستوری حکومت کے قیام کے لیے ایثار و قربانی دینے والوں میں پیش پیش تھے، سلطان پیپو کو مستثنی کر کے اگریز دشمنی میں کوئی دوسرا ان کا ستہم و شریک نظر نہیں آتا، وہ خلافت عثمانیہ کے جواں وقت عالم اسلام کی قیادت کر رہی تھی اور خلافت کا جہنڈا اپنے لئے تھی پر زور حاصل اور بڑے موید تھے، آپ نے افغانستان کی حکومت کے ذمہ داروں اور عثمانی سلطنت کے فرمازوں سے رابط قائم کرنے کی کوشش کی، ۱۲۱۲ھ میں شریف حسین کی حکومت نے مدینہ منورہ میں آپ کو گرفتار کر کے اگریزی حکومت کے حوالہ کر دیا، جس نے ۱۹۱۷ء میں ان کو اور ان کے رفقاء اور بعض تلامذہ (مولانا سید حسین احمد مدینی، حکیم نصرت حسین، مولوی سید وحید احمد) کو جلاوطن کر کے مالٹا بیچ دیا، ۱۹۲۰ء تک ان حضرات نے مالٹا میں جلاوطنی کی زندگی گزار دی، جمیعت العلماء کے بانی مولانا عبدالباری فرجی محلی اس قومی مسئلہ کے پر جوش داعی اور تحریک خلافت کے سرگرم رہنماء تھے۔

اس انقلاب بلکہ حقیقت میں جنگ آزادی میں جس کو بھر پور عوامی تائید حاصل تھی اور ہندو اور مسلمان شانہ بشانہ اگریزی حکومت کے خلاف پرسرپیکار تھے اور ہندوستان کی تاریخ میں ایسا جوش و ولود، ایسا قومی اتحاد، اتنی پر زور عوامی تائید اور ہندو اور مسلمانوں میں ایسی وحدت و اجتماعیت کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، مسلمان قائد اس رول ادا کر رہے تھے، اور اگریزی حکومت کے خلاف جو امام کو صحف آراء کرنے میں اور ایک مضبوط و مشکم خواز کی تخلیل کرنے میں نمایاں کروار ادا کر رہے تھے۔ (۱)

ان کثیر العد اعلاماء نے جن میں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب صدر جمیعت علمائے ہند، مولانا احمد سعید صاحب (دبلوی) مولانا محمد سجاد بخاری، مولانا حافظ الرحمن صاحب ناظم اعلیٰ جمیعت علمائے ہند، مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا جبیب الرحمن

لرھیانوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو جمعیت علمائے ہند سے وابستہ تھے، آخر تک کا گرلیں کا ساتھ دیا، اور اپنے پرانے موقف اور طرز فکر پر مخصوصی سے قائم رہے، ان میں سب سے پیش پیش مولانا حسین احمد صاحب مدفون تھے، جو انگریزوں سے نفرت و عراقت، ملک کی آزادی سے غیر معمولی شغف اور عشق اور اپنے اخلاق میں بجا طور پر اپنے شیخ مولانا محمود حسن صاحب (دیوبندی) کے جاثیں تھے۔ (۱)

(۱) ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ، میں: ۱۳۰-۱۳۱

## بَابُ دُوم

# جماعیت، علمی رسوخ، تعلیم و ارشاد اور قائدانہ کردار

### پہلا تعارف

کسی صاحب کمال ہستی کے کمالات و خصوصیات، شخصیت و صفات کا تعارف کرانا اہل نظر کا کام ہے، لیکن کسی صاحب کمال شخصیت کے متعلق اپنے ذاتی مشاہدات، نقش و تاثرات کے اظہار کے لیے خود صاحب کمال اور صاحب نظر ہونا قطعاً ضروری نہیں، ایک وہ قافی اور ایک ہندی طالب علم بھی بڑے سے بڑے شخص کے متعلق اپنے تاثرات بیان کر سکتا ہے اور ایک بھر، مورخ اور سوانح نگار اس سے بعض ایسے بے تکلف حقائق اور واقعات اخذ کر سکتا ہے جو نامور معاصرین اور پر جوش معتقدین کے پیانات میں بعض اوقات نہیں ملتے۔

لے کر کیا تھا کہ مختوب کی مشہور سفید بارہ دری میں آں پار شیز کا نفس ہو رہی تھی، اور شہر پورٹ پیش تھی، شب کی نشت میں مرحوم تصدق احمد خان شیر وانی نے کسی تجویز پر تقریر کی، اور اس میں کچھ اعداد و شمار پیش کئے، ان کی تقریر کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہوئے، چبر و ستار میں ملبوس، عربی سخ اور ہندوستانی عمامہ، لیکن عجیب بات یہ کہ شیر وانی مرحوم (جو ایک کہنہ مشق سیاسی لیڈر تھے) کے پیش کردہ بعض اعداد و شمار کی

تحقیق فرمائی، مجسم نگاہوں کا جواب تھا، ”مولانا حسین احمد مدھی“۔

اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک جلسہ میں جو طلبہ کے درس قرآن کی تمجیل کی تقریب مدت میں منعقد ہوا تھا، مولانا کو خالص دینی و علمی تقریر کرتے سنے، جس میں آپ نے قرآن کے فضائل و آداب بیان کئے، اور اس کی توجیہ فرمائی کہ بعض فرقوں کو قرآن مجید کیوں یاد نہیں ہوتا، نیز قدیم نصاب درس میں معقولات کی زیادتی اور قرآن مجید کے درس و مطالعہ کی کی اور اس کی حق تلفی پر تقدیم فرمائی، ایک دوبار لا ہور کی طالب علمی کے زمانہ میں مولانا کی روح سے واپسی کے موقع پر زیارت کی، حافظہ پر زور ڈالا، تو یہی ابتدائی نشوش ابھرے، ایک سینہ آغاز طالب علم جس نے عقیدت و ارادت کے حلقة سے خود نشو و نما پایا ہو، اور سیاسی میدان سے نظری مناسبت رکھتا ہو، نہ طبعی عمر ایک نامور حالم اور ایک معروف خادم قوم کی زیارت و دید سے اتنا ہی مشرف اور سعادت انداز ہو سکتا ہے۔

### بہادر معظم مولانا ڈاکٹر عبدالعلی حسینی کا تعلق

میں/ایسا سے ہمارا مکان لکھنؤ میں مولانا کی مستقل قیام گاہ قرار پایا، رقم سطور کے بہادر معظم حکیم ڈاکٹر مولوی سید عبدالعلی صاحب دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل اور شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید تھے، حضرت سید احمد شہید سے نسبت خاندانی کی پدولت بزرگان دیوبند اس خاندان کے افراد سے ہمیشہ سے محبت و شفقت ویگانگت کا معاملہ کرتے رہے ہیں، بھائی صاحب جب تک دیوبند میں رہے، شیخ الہند کے الطاف و عنایات سے سرفراز رہے، بیعت و ارادت کا اگر بھی خیال آتا تو نظر حضرت ہی کی طرف جاتی، ابھی اس ارادہ کی تمجیل نہیں ہونے پائی تھی کہ حجاز کا سفر اور مالٹا کی منزل پیش آگئی، واپسی میں بھی اس کا موقع نہیں مل سکا، اب اس ارادہ کی تمجیل اس سے ہوئی جس کو حضرت کے بہت سے ارادوں کی تمجیل کرنی تھی، لکھنؤ بہت سے اسباب و خصوصیات کی بناء پر قوی و سیاسی تحریکوں کا ایک بڑا

(غالباً بسب سے بڑا) مرکز تھا، کانگریس سے لے کر معمولی کمیٹیوں اور سیاسی اجمنوں کے اجلاس لکھنؤ میں ہوتے تھے، اور مولانا کو اکثر ان میں شرکت کرنی ہوتی تھی، سیاسی اشہار کانگریس کے جلسوں اور کانفرنسوں کی ہر وقت شرکت بھی کبھی مولانا کے مزاد، افتتاحی اور معمولات میں فرق نہیں پیدا کر سکی، سیاسی رہنماؤں اور مندوں میں کی قیام گاہ لکھنؤ میں عموماً بڑے ہوٹل، قیصر باغ کے پرانے محلات یا امراء کی کوٹھیاں ہوتی تھیں، مولانا کو اس ماحول سے کبھی مناسبت نہیں رہی، ان کو ایک سادہ بے تکلف، مخلصانہ قیام گاہ جہاں سے مسجد قریب ہو، اور جہاں معمولات آسمانی سے پورے ہو سکتے ہوں، اور جہاں رہنے اور کھانے میں تکلفات نہ ہوں، ہزار درجہ پسند رہی تھی، ہمارا محلہ بازارِ جہاڑا لال ہمیشہ سے اس بارے میں ممتاز رہا ہے کہ وہاں صحیح العقیدہ و غریب مسلمان رہتے ہیں، والد صاحب (مولانا حکیم سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کی وجہ سے اور ندوہ کے تعلق سے یہ محلہ اور اس کی مسجد ہمیشہ علماء و فضلاء کا مرکز رہی ہے، مولانا نے اس محلہ اور ہمارے مکان کو لکھنؤ کے قیام کے لیے منتخب فرمایا، اور آج بیس برس ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی اس وضع داری اور معمول میں فرق نہیں آیا، ایسا بھی ہوا ہے کہ سلیم پور ہاؤس یا شاہی بارہ دری کے شاندار بیوان کے جلسے اور میاہشوں میں ایک گھنٹہ شریک رہے، اور کھانا ہمارے "شیرازی" دستخوان پر کھایا، خواہ کتنی دیر لگ جائے، مسلم پارلیمنٹری بورڈ کے زمانہ میں، کسی حلقة انتخاب میں تشریف لے گئے، دیر رات گئے تشریف لائے، معلوم ہوا ابھی کھانا نہیں کھایا، ما حضر تناؤ فرمایا، اور استراحت کی، اس گھر کی یہی ادا (سادگی) آپ کو پسند تھی، اگر کبھی کچھ تکلف کیا گیا تو شکایت فرمائی۔

مسلم پارلیمنٹری بورڈ، تحریک مددح صحابہ وغیرہ کے موقع پر آپ کا قیام کئی کئی دن مسلسل رہا، محروم و مختصر قیام گاہ اور سادہ طرز رہائش میں گھر والوں کو معزز ذمہناوں کو قریب سے دیکھنے اور ان کا مطالعہ کرنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، جو چیز خاص طور پر

محسوس کی وہ دن میں ان کی شکنگنگی، مستعدی و بیداری، ہر ایک کی طرف توجہ والتفات اور شب کو محمولات کی پابندی و مشغولی، ان آنکھوں نے مقناد مناظر بھی دیکھے، بعض مقامی تحریکوں میں عقیدت و ارادت کا جوش بھی دیکھا، ان کی نیازمندی اور اظہار چانشی بھی دیکھا، پھر انہی آنکھوں نے زور رخ، طوطا چشم خوام کو سخت پڑھم اور مغلوب الغصب بھی دیکھا، اور ان کے ذمہ داروں کو تند و قلیق الفاظ رو رورو (منہ پر) کہتے بھی سناء، لیکن مولانا کی حالت یکساں پائی، بعض سیاسی تحریکوں کے زمانہ میں بھی مشاہیر کو نیازمند ائمہ حاضر ہوتے اور تعارفی و سفارشی خطوط لکھواتے بھی دیکھا، پھر ان کی تیخ نوایاں اور احسان فراموشیاں بھی دیکھیں، اس کو تقدیری ذہن کہیے یا حقیقت پر بنی کہ طبیعت نے یہ محسوس کیا کہ آنے والوں اور پیشہ والوں میں مولانا کے اصل ذوق اور اصل فن سے استفادہ کرنے والے بہت کم نظر آئے، زیادہ وقت اشخاص یا جماعتوں کے تذکرہ یا سطحی تبصہ یا توحید و دعا کی فرمائش میں گزرتا، مولانا اپنی فطری عالی ظرفی سے کسی کو گرفتی یا ناگواری کا احساس نہ ہونے دیتے، مگر جہاں کوئی تصوف و سلوک کا کوئی مسئلہ پوچھتا یا کوئی علمی بحث چھیڑ دیتا یا اللہ کا تذکرہ کرنے لگتا تو فوراً چہرہ پر بنشاشت ظاہر ہوتی، اور ایسا معلوم ہوتا کہ وہ کام ساز کسی نے چھیڑ دیا۔

### مولانا کی خدمت میں میری حاضری اور دیوبند کا قیام

صرف باہر ہی نہیں اس ناقیز نے مولانا کو اپنے مستقر پر بھی دیکھا، چار صینے دیوبند قیام رہا، تقریباً مہینہ بھر خاص مولانا کے دولت کردہ پر، پھر اپنے اصرار سے دارالشفا کے ایک جگہ میں (جو مولانا کے دروازہ سے متصل اور گزرگاہ پر واٹھ ہے) منتقل ہو گیا، یہ قیام گاہ بھی زیر سایہ ہی تھی، آتے جاتے ملاقات، چن میں صبح و شام انشست و برخاست، اخبار بینی، صبح کی چائے میں پابندی سے حاضری، (جس کو مولانا نے شرط فرمادیا تھا) اس زمانہ قیام میں مہماںوں کی کثرت اور اس پر مولانا کی سرست و بشاشت پیچشم خود دیکھی،

مہماںوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، مستقل مہماں خاصی تعداد میں الگ تھے، بعض اوقات خود اندر سے کھانا لاتے، مہماںوں میں ہر طبقہ کے لوگ تھے، ارکان جمعیت، مشاہیر علماء، سیاسی کارکن، نوجوان و رکر، جیل سے آئے والے خفیہ پولیس کے خفیہ اشخاص، بیعت کے خواہش مند، تعلیم کے طالب وغیرہ وغیرہ، بیکنیں مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھلی زیارت ہوئی، کئے چھٹے ان کی بھساگی رہی، اور ان کے محاسن کا علم ہوا، بخاری و ترمذی کے درس میں شرکت کرتا تھا، مولانا کا استحضار اور مسئلہ مبسوط تقریر ان لوگوں کے لیے بھی بات ہے جو مولانا کی سیاسی مصروفیتوں اور سفروں کی کثرت سے واقف ہیں، ایک مسئلہ پر بعض اوقات تین تین چار چار دن مسلسل ۲۰/۲۰ منٹ کے تعلیمی گھنٹہ تقریر چاری رہتی، اور مسئلہ کا مالہ و ماحلیہ، ائمہ کے اختلافات و اختلاف فتاویٰ، اور ان کے دلائل و مأخذ، متن و اسناد رجال کی بھیشیں، بر جستہ اس سب پر مولانا کی قرأت حدیث، مولانا کا مخصوص دلکش ہبھج اور دارالحکمہ کی روحانی پر سکپیت فضا بھی تکن آنکھوں میں ہے، اور گویا اس وقت بھی ”وبالسند المتصل منا الى أمير المؤمنين في الحديث.....“ کی آواز کافوں میں گونج رہی ہے، درمیان میں طلبہ کے سوالات کا (جن میں بعض غیر متعلق بھی ہوتے) تحلیل کے ساتھ جواب دیتے جاتے، آخر سال میں درس کی مصروفیت اتنی بڑھ جاتی کہ عصر کے بعد بھی درس، عشاء کے بعد ویرات تک درس، صحیح کی نماز کے بعد درس، اچھے اچھے مستعد طالب علموں کی بہت جواب دے جاتی، لیکن مولانا کی مستعدی، نشاط اور قوت میں فرق نہ آتا۔

یہ (۳۲ء) کا زمانہ تھا، مولانا کے سفر کے پروگرام پہلے سے مرتب ہوتے، اکثر جمجمہ باہر ہی گزرتا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح داود علیہ السلام کے لیے لو ہے کو موم کر دیا تھا، ”وَأَنَّا لِهِ الْحَدِيدَ“ مولانا کے لیے سفر سہل فرمادیا ہے

ع ما آب من سفر الا الى سفر

ترجمہ (ایک سفر سے لوٹنے پسیں دوسرے کے لیے پابند کاب ہو جاتے)

مجھے قرآن مجید کی تفسیر کے مطابعہ کا شوق تھا، اس میں اشکالات پیش آتے تھے جو بعض مرثیہ کی کتاب سے حل نہ ہوتے، مولانا نے جو حصہ کی نماز کے بعد کا وقت مرحمت فرمایا تھا کہ اپنے اشکالات کو پیش کروں، مگر تھوڑے ہی جتنے میرے حصہ میں آئے، مطالعہ کے لیے بعض سیاسی کتابیں حکومت خداختیاری وغیرہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل عنایت فرمائے۔

### ایک بڑا فائدہ اور برکت

دیوبند کے قیام کی برکت تھی کہ انگریزوں سے نفرت میں (جس کے جاثم میرے اندر موروئی طور پر تھے) شدت پیدا ہوئی، بعد میں اس میں اتنا اضافہ ہوا کہ ایک انگریز ہی تھیں سارا یورپ ہی اس وقت کفر و مادیت کا علم بردار ہے، اور اس کے زوال کے بغیر دین و اخلاق کا عروج اور اسلام کی دعوت کا پھلانا پھولنا مشکل ہے، یہ صرف کسی ایک حکومت اور کسی ایک ملک کی نیلامی کا سوال نہیں، سوال ایک پوری تہذیب، ایک مستقل نظام فکر، اور ایک عالمگیر دعوت کا ہے جو پیغمبروں کی لائی ہوئی تعلیمات اور ان کے متان و ارشات کے بالکل خدعاً قائم ہوئی ہے، وہ کیا وقت اور ماحدل تھا جس میں حضرت مولیٰ علیہ السلام نے بڑے اضطرار سے یہ دعا کی تھی کہ ﴿وَبَنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَنْوَلَآفًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا يَضْلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا طَوْسُ عَلَى أَنْوَالِهِمْ﴾ (یونس: ۸۸) یہ بات یورپ کے عالمگیر اقتدار اور اس کی محراجیز ترقی ہی کو دیکھ کر سمجھ میں آئی، انگریز مشرق میں اپنی لا دین و مادہ پرست یورپ کا ایک کامیاب ایجاد تھا، اور ہم اہل مشرق کو سب سے پہلا اور سب سے بڑا واسطہ اسی سے پڑا، اس لیے اس سے ہماری نفرت بالکل قدرتی امر ہے، لیکن ”الکفر ملة واحدة“

ع ایں خاشہ تمام آفتاب است

اس تہذیب اور اس دعوت کے علم بردار امر یک، روں اور خداشتیا کے وہ لا دینی حملک اور ریاستیں ہیں، جنہوں نے یورپ کے نظام فکر اور نظام حیات کو پورے طور

پر اپنا لیا ہے، بیز پورپ سے عالم اسلامی کو جو دینی، ایمانی، اخلاقی نقصان پہنچا ہے وہ ان نقصانات سے کمیں بڑھ کر ہے جو غیر ملکی حکومت سے ان ممالک کو پہنچا ہے، بہر حال انگریز سے یہ مخصوص نفرت بھی قابل قدر بیز تھی، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس میں اس ماحدول، مولانا کی محبت اور مطالعہ کو خاص خلیق تھا۔

دیوبند کے قیام میں میرے لیے دل بستگی کا واحد ذریعہ مولانا کی ذات گرامی تھی، میری ڈائی ویلی پرداخت اس انداز سے ہوئی تھی کہ میرے لیے وہاں کے درسی و مردمی ماحدول میں دلچسپی کا کم سامان تھا، لیکن مولانا کی ایک نگاہ التفات، ایک تمسم، کسی وقت شفقت سے کچھ پوچھ لینا سارا بوجہ ہلکا کردیتا، اور دل دریک اس کا ہر ہی بتارہ تھا۔

**دارہ شاہ علم اللہ** رائے بریلی اور چائس و نصیر آباد کا ایک سفر اور  
میری رفاقت

رجب کے آخر یا شعبان کی ابتداء میں مکان واپس آگیا، مولانا کی آمد و رفت اور قیام کا سلسلہ چاری رہا، اور ہم لوگوں کو خدمت کا شرف حاصل ہوتا رہا، مسلم پارلیمنٹری بورڈ کے زمانہ میں ایک حلقة انتخاب میں معینت وہر کابی کا شرف حاصل ہوا، مولانا ہمارے خلیج (رائے بریلی) میں دورہ کرنے والے تھے، مسئلہ سفروں سے ختم ہو رہے تھے، لوگوں کو اپنے کام سے کام ہوتا ہے، کسی کی محنت و راحت کی پرواہ نہیں کرتے، بھائی صاحب نے خنکی و لکان محسوس کر کے مجھے ساتھ کر دیا کہ رائے بریلی پہنچ کر ایک دو روز کے لیے اپنے یہاں (دارہ شاہ علم اللہ) میں مولانا کے آرام کا اہتمام کرنا، اور اس کی کوشش کرنا کہ مولانا کچھ وقت سکون و راحت کے ساتھ گزاریں، چائس و نصیر آباد کے حلقة میں دورہ تھا، کار کا سفر تھا، امیدوار صاحب بھی جو یوپی کے ایک مشہور مسلمان بیرون ہیں ہمراہ تھے، اس سفر سے اندازہ ہوا کہ مولانا اس کام کو اپنا ایک دینی فرض سمجھ کر اور ایک عقیدہ و ارادہ کے ماتحت کر رہے ہیں، وہی بے غرضی، وہی مستعدی، وہی جفا کشی

جو ایک سپاہی میں میدان چنگ کے اندر ہوتی ہے، جو حد کی نماز، ایک قصبہ کی جامع مسجد میں پڑھی، خطیب صاحب حضرات دیوبندی تکمیر کرنے والوں میں تھے، انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بعض بزرگوں کے متعلق بہت کچھ کہا، مولانا سنتوں سے فارغ ہو کر خاموش بیٹھے تھے، نماز ہوئی، خاموش تشریف لے آئے، سفر کے آخر تک کبھی بھول کر بھی خطیب صاحب کا تذکرہ نہیں کیا، امیدوار صاحب نے کھانے کا پر تکلف اہتمام کیا تھا (جیسا کہ امیدوار صاحب ان کرتے ہیں اور حلقة انتخاب کے مقررین تو قوت رکھتے ہیں) مولانا نے مجھے اپنے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں شریک کیا، اور اس قدر جلد باہر اٹھا لیا کہ میں کچھ گیا کہ وہ قوت لا یکوت کے طور پر اس کھانے کا استعمال جائز تھے ہیں، رائے بریلی میں ایک شب قیام فرمایا، حضرت شاہ عالم اللہ ( جدا مجدد حضرت سید احمد شہید ) کی مسجد میں ویرتک تھا مراقب رہے، نکلنے کے بعد گھر میں کچھ دیر بیان فرمایا، جو بعض عالم آخرت، حالم ارواح اور روزخ کی زندگی سے متعلق تھا، چلتے وقت اس مقام کے متعلق اپنے باطنی تاثرات کا اظہار کیا اور طویل قیام کی خواہش ظاہر کی جس کی مولانا کی صور دو و تھر ک زندگی میں بہت کم کنجائی تھی۔

### ایک ہنگامہ خیز دور

پھر وہ ہنگامہ خیز دور آیا جب مولانا کی رائے اور سیاسی بصیرت، عام مسلمانوں کی خواہش اور جذبات اور اس وقت کی مقبول قیادت کے سیاسی فکر سے بالکل مختلف تھی، مولانا نے پوری قوت اور بے باکی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا، قسم کے خطرات و نقصانات بیان کئے، اور اسی پر اکتفاء نہیں کیا، بلکہ اپنے خیالات کی وحودت و تعلق کے لیے سارے ملک کا دورہ کیا، جا بجا تقریبیں کیں، متعدد رسائل و مقالات شائع کئے، اس وقت مسلمانوں پر ایک احصائی کیفیت طاری تھی، جس کے دو بڑے محرك تھے، ایک پرادران وطن کی نظری اور کم حوصلگی کا طویل و مسلسل تجربہ جو انگریزی حکومت میں

برسہارس سے ہو رہا تھا، چنانچہ اس تحریک میں وہی طبقہ پیش پیش تھا جس کو دفتر وں، تعلیم کا ہوں اور شہری زندگی میں اس سے سابقہ پڑتا تھا، دوسرا محک مسلمانوں کی قوی تیادت کا مزارج تھا، اس لیڈر شپ نے مسلمانوں کے چذبات کو اتنا متحرک و مشتعل کر دیا تھا کہ ان میں کسی مخالف رائے کے سنتے اور برداشت کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی، اور کسی مسئلہ پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے اور اس کے نشیب و فراز کے سوچنے کے وہ حال اور کیفیت ہی میں نہیں تھے، مولانا کے خلوص، عزم اور احساس فرض نے اس کیفیت کو جو ایک واقعہ تھا، تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ پروٹالنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنے عقیدہ اور ضمیر کے مطابق رائے عامہ کی اس طاقت کے سامنے کلمہ حق کہنے کو اپنا فرض اور افضل الیہاد سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ سفروں اور جلسوں میں وہ سب کچھ پیش آیا جو مولانا کی شخصیت، ان کی سابقہ خدمات، ان کے علمی و دینی مقام کے بالکل شایان شان تھا، اس وقت ایک طبقہ تھا جو اس سطح کی چیزوں کے ملاوہ باطنی کیفیات کا بھی ادراک رکھتا تھا، وہ ان واقعات سے جو مختلف مقامات پر پیش آ رہے تھے سخت تکلیف محسوس کرتا تھا، اور مولانا کے علم مقام، للہیت و بے نقی کی کھل کر شہادت دیتا تھا، اور ان واقعات کو مسلمانوں کے حق میں مضر و نامبارک سمجھتا تھا، مجھے یاد ہے کہ ایک ایسی ہی مجلس میں جب سید پور کے آئیشن کا واقعہ کسی اخبار سے پڑھ کر سنایا چار ہاتھا تو بعض اہل دل فرط تاثر سے روپڑے، مشکل سے کوئی ایسا تھا جس کی آنکھیں نہ ہوں، اس وقت مولانا کی عقیدت و محبت اور ان کے خلوص و للہیت پر اعتماد ایک جزیرہ سائیں کر رہ گیا تھا، جس کے چاروں طرف ناراٹھکی، بربھی، و بدناہی کا سمندر پھیلا ہوا تھا، جس کی موجودیں اس جزیرہ کے کنارہ سے آ کر گرا تیں، اور واپس جاتیں، اس جزیرہ پر وہ ہزاروں لاکھوں مسلمان آباد تھے جن کو اب بھی مولانا کے خلوص و للہیت پر اعتماد تھا، اور جو اس پر ایمان رکھتے تھے کہ مولانا سے تمام اصحاب اجتہاد کی طرح خطاء اجتنبادی تو ممکن ہے، پیکن خود غرضی، موقع پرستی، سر بلندی اور قیادت کی خواہش، حب چاہ وہ چیزیں ہیں جن

سے اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بہت بلند کر دیا ہے، لکھنؤ میں ہمارا مکان بھی اس جزیرہ پر واقع تھا اور چونکہ لکھنؤ اس قومی تحریک کا بہت بڑا مرکز تھا اس لیے ہمیں بھی ناراضگی کی ان لہروں کا تجربہ کرنے کا موقع ملا۔

## ۱۹۷۲ء کا انقلاب

آخر وہ دور آیا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے جذبات میں تحریک پیدا کی تھی وہ ان کو بے یار و مروگار چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی دنیا میں چلے گئے، مسلمانوں میں سخت مایوسی، مستقبل سے ناامیدی، اور اپنے بارے میں بے اعتمادی اور احساس کتری رونما تھا، ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، ہر شخص ایک تینی کسپرسی کی تھی کیفیت محسوس کرتا تھا، اب مولانا اور ان کے رفقاء کی جماعت تھی کہ انہوں نے مسلمانوں میں خود اعتمادی، مستقبل کی طرف سے اطمینان، اپنے وطن میں رہنے اور ناسازگار حالات کا مقابلہ کرنے کا عزم پیدا کرنے کی تبلیغ کی، شامی ہندوستان اور باخنسوں یوپی جو ہندوستان کے مسلمانوں کا ہفتی، علی (اور سیاسی مرکز ہے) کے مسلمانوں کی قسمت اور ان کے قیام کا انحصار یوپی کے مغربی سرحدی اسلام (سہارپور، مغلیرگر، میرٹھ) کے برقرار رہنے اور مسلمانوں کے اپنی جگہ قائم رہنے پر تھا، سہارپور اور اس کے متصل اسلام میں مقامی حالات اور مشرقی پنجاب کے قرب کی وجہ سے ترک وطن اور انخلاء کی طاقتور تحریک اور رجحان پایا جاتا تھا، علماء یوپی اور سہارپور کا یہ بڑا احسان ہے کہ ان حضرات نے ترک وطن کی تحریک و ترغیب کا سختی سے مقابلہ کیا اور اس کو دینی و سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کے اقدام قتل کا مراد فیض لایا، اور مسلمانوں کے روکنے اور ان کے قدم بھانے کی سخت جدوجہد کی، اس میں بھی مولانا کا بہت بڑا حصہ تھا، خود ان کے قیام نے پھر ان کی ایمان آفرین تقریروں نے ان اهلیت کے مسلمانوں میں دینی روح اور نیا حوصلہ پیدا کر دیا، ترک وطن کا سلسہ رک گیا، بہت سے لوگوں کو میری طرح یہ احساس ہو گا کہ مولانا کی محنت زیادہ جدوجہد کے لائق ہوتی، ماحول اور رفقاء

کچھ بھی مساعد ہوتے اور خلاف توقع حالات و واقعات نے طبیعت کو افسرده اور دل شکستہ کر دیا ہوتا تو مولانا اب بھی اسی عزم اور طاقت کے ساتھ اس پر لے ہوئے دور کی رہنمائی کرتے اور وقت کے غلط درجات کا مقابلہ کرتے۔

ولو ان قومی انتفاضتی رمادهم

نطقت ولکن الرماح أحترت

جو ان کی بہترین طاقتیں، اور قلب و دماغ کی پوری توجہات اور ہمت قلبی انگریزی حکومت کے مقابلہ اور انگریزوں کے اخراج پر صرف ہوئی، جس کے لیے شیخ الہند کی محبت اور تحریر و مطالعہ نے آپ کو تیار کیا تھا، جب نیا انقلاب (۱۹۴۷ء) اپنے نئے تقاضوں اور ضرورتوں کے ساتھ آیا تو وہ عمر کے انحطاط، قوی کے اٹھالاں اور مصروفیتوں کی زیادتی کا زمانہ تھا، اور عام طور پر یہ خیال غالب تھا کہ مسلمانوں کا اس ملک میں کسی نہ کسی طرح رہ جانا ہی ایک بڑی کامیابی اور فتح مندی ہے، اب یہ ان لوگوں کی خدمت و عنایت کا زمانہ ہے جو اس انقلاب کے دور میں اثرات سے واقف ہیں، اور علمی و فکری طور پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔

### دینی حیثیت وغیرت اور جرأت و عنایت

ایک جامع فضائل ہستی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کے فضائل و مکالات میں مرکزی اور نمایاں صفت کون ہی ہے جس کو اس کی شخصیت کی کلید قرار دیا جائے، اور جس سے اس کی زندگی اور خصوصیات کو بھنا آسان ہو جائے، مولانا کو بہت سے لوگ ایک عالم اور محدث کی حیثیت سے جانتے ہیں، بہت سے لوگ ایک شیخ طریقت اور سالک کی حیثیت سے جانتے ہیں، بہت سے لوگ ایک سیاسی رہنما اور مجاہد کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ان سب فضائل سے آراستہ کیا ہے، لیکن یہری کوتاہ نظر میں دو صفتیں آپ کی زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، جنہوں نے آپ کو آپ کے معاصرین

میں ممتاز بنا لیا ہے، ایک عزیزیت، دوسرے حمیت، عزیزیت کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ آپ نے علماء والی درس کے حلقات سے باہر قدم کالا اور اس مسئلہ کی طرف توجہ کی جو وقت کا اہم مسئلہ تھا، اور یعنی انگریزی حکومت کے عروج کے زمانہ میں اعلان حق کر کے "کلمہ حق عند سلطان جائز" کے افضل چہا کا شرف حاصل کیا، مالا میں اسی ری کے دن گزارے، اور ہندوستان کے جیلوں میں مہینوں رہ کرست یونی ادا کی، اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے مقابلہ میں برسوں سینہ پر رہے، یہاں تک کہ آپ کا مقصد پورا ہوا، پھر یہ عزیزیت آپ کی پوری زندگی میں نمایاں ہے، فرانس کی ادائیگی، نوافل و مستحبات کی محافظت، مخالف ماحول میں محمولات کی پابندی، اس زمانہ میں بڑی استقامت ہے، وعدوں کے ایقاع، دور راز کے جلسوں اور اجتماعات میں شرکت اور اس کے لیے ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کرنا مستقل عزیزیت ہے، پھر اس سب کے ساتھ دارالحدیث کے اس باقی کی پابندی اور کتابوں کی تحریک ایک مستقل مجاہدہ، مہماںوں کی میزبانی اور مختلف الطبائع اشخاص کے ساتھ معاملہ اور ان کی مزاجی خصوصیات کا تکمیل مستقل چہاد، پھر مریدوں کی تربیت اور تحریکی، کثیر التعداد خطوط کا جواب دینا اور سب اس ضعف و میری میں یہ سب آپ کی غیر معمولی عزیزیت و علوہت کی ولیل ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں "ان الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها" پر عمل کر کے دکھادیا۔

حیثیت آپ کی کتاب زندگی کا نہایت روشن عنوان ہے، اسی حمیت نے انگریزوں کی مخالفت کا جذبہ پیدا کیا، جس کی آسودگی اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ انگریز اس ملک سے چلنے والیں گئے، تحریک خلافت اور جمعیۃ علماء کی جدوجہد میں یہی روح کام کر رہی تھی، اور یہی آپ کو سدا جوان، مستعد و سرگرم رکھے ہوئے تھی، اور اسی نے سینکڑوں، ہزاروں آدمیوں کو تحریک بنارکھا تھا، یہی حمیت تھی جس نے آپ سے مہینوں و مہین اسلام طاقتوں کے خلاف قوت نازلہ، اس جوش و لولہ کے ساتھ

پڑھوائی کر معلوم ہوتا تھا کہ محراب میں شگاف پڑ جائیں گے، اور الفاظ نہیں ہیں بلکہ شرارے ہیں جو آپ کے دل سے نکل رہے ہیں، میکی حیمت ہے جو کسی منکر شرعی اور خلاف سنت فعل کو ذرا بھی دیکھنے کی رواداری نہیں اور جس کی حرارت اور آخ پاس بیٹھنے والوں کو اکثر محسوس ہوتی تھی، جن لوگوں نے آپ کے اس جذبہ کو پہچان لیا تھا اور سمجھ گئے تھے کہ حیمت آپ میں کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہے، وہ بعض اوقات اس سے خلط فاکدہ اٹھا لیتے، اسی طرح مولانا کی شرافت و مردمت سے جو آبائی ورثہ اور سادات کرام کا شیوه ہے، بہت سے لوگ خلط فاکدہ اٹھا کر آپ کے خلص محبین اور نیازمندوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے، اور اپنی غرض برداری کر کے اپنی ہوشیاری اور موقع پرستی کا ثبوت دیتے اور مولانا کی ذات کو فضان پہنچاتے تھے۔ (۱)

### جامعیت اور علمی رسولخ

اسیوں یہ تھا یہ ایک ایسی جملی القدر شخصیت کے حقیقی مقام اور اس کے علمی و عملی کمالات و محسان معلوم کرنے کے ذرائع متفقہ تھے، جو لوگ محبت سے محروم رہے یا بعد میں آئیں گے ان کے لیے یہ بجانتے کاموں شہشاہ کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو کیسی جامعیت، علمی استحضار، مسائل سلوک و تصور پر لگاہ اور علمی رسولخ عطا فرمایا ہے، اس کا اندازہ ہے آپ کو ہماری تقریروں سے ہو سکتا ہے، نہ آپ کے سیاسی مقالات و رسائل اور خطبات صدارت سے، بلکہ اس بات کا اندازہ یہ ہے کہ یہ خطبات اور رسائل آپ کی ذات کے مختلف خلط ٹھیک اور کوتاه قطري پیدا کرنے کا باعث ہوں، اس لیے کہ آپ کی ذات اس سے کہیں زیادہ جامع اور وسیع ہے جیسی ان کا آثار علمیہ و سیاسیہ میں نظر آتی ہے، صدقیق محترم مولانا ڈم الدین اصلاحی نے مولانا سے محبت و عقیدت رکھنے والوں پر بڑا احسان کیا اور آنے والے مؤمنین و سوانح نگاروں کی بڑی مد فرمائی کہ مولانا کی

(۱) یہ مضمون "مکتبات شیخ الاسلام" کے مقدمہ کا حصہ ہے جو پرانے چار حصے اول صفحہ ۸۳-۱۰۰ میں حضرت شیخ الاسلام کے تذکرہ میں شامل ہے۔ (محمود)

ان خصوصیات سے بلا واسطہ اور بالوثق طریقہ پر واقف ہونے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا کر دیا جس سے (یادہ مستند اور یقینی ذریعہ عرصہ تک کی رفاقت و معیت کے بعد کوئی اور نہیں ہو سکتا، مولانا کے مکتبات کا مجموعہ اس وقت تک مولانا کی شخصیت و سیرت اصلی خیالات و افکار حضیقی، ذوق و مزاج اور دینی و علمی خصوصیات کا سب سے زیادہ جامع مرقع ہے جو منتظر عام پر آیا ہے،<sup>(۱)</sup>)

## مسلسل جدوجہد اور سرتاپ اقرب بانی زندگی

مجھے اپنی ایک برانی عربی تحریر یاد آئی، جو غالباً (۲۲/۲۲) کے لگ بھگ لکھی گئی ہو گی، وارالعلوم کے طلبہ نے عربی کا ایک رسالہ "الأخلاق" کے نام سے نکالا تھا، اس کا وہ مولانا "حسین احمد نبیر" نکالنا پاہتے تھے، انہوں نے اس تاثیر سے بھی اس کے لیے کچھ لکھنے کی فرمائش کی، یہ فرمائش چونکہ دل کی خواہش کے مطابق تھی، بغیر کسی تکلف و تکلیف کے ایک مضمون عربی میں لکھ کر ان کو بھیج دیا گیا، جس کا عنوان تھا "صلتی بمولانا حسین احمد المدنی صفحۃ من صفحات حیاتی" (مولانا حسین احمد صاحب مدینی سے میرا تعالیٰ و تعلق اپنی تاریخ کا ایک ورق)، نبیر نکلنے کی تو شاید نوبت نہیں آئی، مگر اس بہانہ سے وہ مضمون لکھ لیا گیا، اس میں اپنے دیوبند جانے اور وہاں کے قیام کے تاثرات اور مولانا کی شخصیت کے جو نقش قلب و دماغ پر مرسم ہوئے تھے ان کو اچا گر کیا گیا ہے، جی چاہا کہ اس کا آخری پیراگراف یہاں بھی لقل کر دیا جائے، اس لیے کہ بھگ الدّداب بھی اس میں ایک نقطہ کی ترمیم کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی:

"أَمَا الشِّيْخ فَلَا أَزَال عَلَى صَلَة بِهِ وَأَجْدَدُ الْمَهْدَ بِأَنْفَاسِهِ  
وَمَحَالِسِهِ وَاتَّفَقَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ صَحَبَتِهِ فِي السَّفَرِ فَانْكَشَفتَ  
لِي نَاحِيَةٌ مَهْمَةٌ مِنْ نَوَاحِي الْحَيَاةِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَقَرَأْتُ صَفَحَةً

(۱) از مقدمہ "مکتبات شیخ الاسلام" مرتبہ مولانا جنم الدین اصلاحی مرحوم (محبود)

جديدة من صفحات حياته، أطالها الله والانسان في السفر غيره في الحضر ولكن رأيته في بيته بل وأجمل نزاهة الأخلاق وعفة بطن، وعلو همة وشهامة نفس وصبر لا يعرف السامة والملل وهمته لا تعرف القبور والكسل سهر في طاعة وبقظة في شغل ونومه في اعتدال وبكلمة في اقتصاد وحياة كلها جد واجتهد وتضحية وجهاد".

(مولانا سے بھر اللہ میر ار بیٹ تعلق قائم ہے، اور مجھے ان کے انفاس و جالس سے استفادہ کے موقع وقار فوت ملتے رہتے ہیں، مجھے ان کے ساتھ سفر میں رہنے کا اتفاق ہوا تو انسانی زندگی کا ایک اہم گوشہ بھی سامنے آگیا، اور میں نے ان کی مبارک زندگی کا نیا ورق بھی مطالعہ کیا، انسان اکثر سفر میں اس سے مختلف نظر آتا ہے جیسا قیام کے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے، لیکن میں نے ان کو سفر میں ویسا ہی پایا جیسا وہ گھر میں نظر آتے ہیں، بلکہ کچھ بڑھا ہی ہوا پایا، پاکیزہ اخلاق، بحث و خوددار، بلند ہمت و عالی حوصلہ، ایسے جھاکش کہ آکتا اور بھرنا جانتے نہیں، ایسے جو ان ہمت کے ساتی اور کسل مندی کے پاس نہیں جاتے، بیدار ہوں تو طاعت اور کام میں مشغول آرام فرمانا، کھانا تناول فرمانا سب بقدر ضرورت ان کی زندگی مسلسل چدو چھدا اور سرتاپا قربانی و مجاہد ہے) (۱)

### علمی مذاق اور رہنمایا نہ کردار

اپریل ۱۹۷۸ء میں جمیعۃ العلماء ہند کا سالانہ جلسہ لکھنؤ میں ہوا، مندویین و مہماں کا قیام دار العلوم ندوۃ العلماء کے احاطہ میں تھا، مجھے خیال ہوا کہ اگر اس موقع پر

(۱) یضمون ۱۲/ مفر ۳۲۳ احمد کو لکھا گیا جو "کلثوبات شیخ الاسلام" مرتبہ: مولانا حکم الدین اصلانی کے مقدمہ کا حصہ ہے۔ (مجموعہ)

معزز و ذی علم مہماںوں کی خیافت طبع کے لیے طلبہ کی انجمن "الاصلاح" کی طرف سے ایک علمی و تاریخی نمائش کا انتظام کیا جائے تو ہر طرح موزوں و برجیں ہو گا، اس وقت عزیزی مولوی طیب عثمانی "الاصلاح" کے ناظم تھے، میں نے والد ماجد مولانا حکیم سید عبدالحی صاحب کی عربی تصنیفات "نزہۃ الخواطر" کی آٹھ جلدیوں اور "معارف العواف فی أنواع العلوم والمعارف" کی مدوسے ایسے تاریخی معلومات افرا چارٹ تیار کیے جن کو دیکھنے سے ایک نظر میں معلوم ہو جاتا تھا کہ ہندوستان کے ہزار سالہ اسلامی عہد میں ہر علم و فن میں کون کون سی اہم شخصیتیں پیدا ہوئیں، علمائے ہند کی وہ تصنیفات کون سی ہیں جو بین الاقوامی شہرت رکھتی ہیں اور اسلام کے پورے عالمی ذخیرہ میں ان کی امتیازی شان ہے، ہندوستان میں کس کس دور میں کون کون سے علمی و روحانی مرکز تھے، اور کہاں کہاں بڑے مدارس قائم ہوئے، نظام و نصاب تعلیم میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، مختلف زمانوں میں کیا کیا معیار فضیلت رہے، غرض چند نشتوں میں ہندوستان کی علمی و دینی تاریخ کا ابھرا ہوا خاک اور ہزاروں صفحات کا عطریج کر آ گیا تھا، سینکڑوں آدمیوں نے اس علمی نمائش کی سیر کی لیکن اس سے سب سے زیادہ دلچسپی دو صاحبوں نے لی، ایک صدر جلسہ مولانا حسین احمد صاحب مدینی<sup>(۱)</sup> نے اور دوسرے

(۱) "حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدینی کو نواب علی حسن خاں صاحب کے زمانہ ہی سے ندوہ العلماء کے اجلاسوں میں شرکت کی دعوت دی جاتی رہی تھی، مگر وہ اپنی مصروفیات کے سبب غالباً کسی جلسہ میں شرک نہیں ہو سکے، ڈاکٹر صاحب کے زمانہ میں حضرت مولانا کا ندوہ سے قریبی ربط قائم ہوا، اور برادر پڑھتا گیا، مولانا عبد السلام صاحب قدوامی نے "حالات ندوہ" کے تحت حضرت مدینی کی آمد کے بارے میں تحریر کیا:

"جذاب مولانا حسین احمد صاحب نے درسہ کے عام معائدہ کے علاوہ انجمن الاصلاح کے جلسہ میں ایک بڑی مؤثر اور ایمان آفرین تقریر فرمائی، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:  
آپ نے فرمایا کہ انسان جسم و روح کا مجھ ہے، جسم کی طرح روح بھی پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج صرف انجیاء علم السلام کے بیہاں ہے، اس کے بعد دنیا کے موجودہ حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اب یہ بات آنکھ کارا ہو چکی ہے..... (باتی اگلے صفحہ پر)

ڈاکٹر سید محمد صاحب نے، ڈاکٹر صاحب اس وقت بہار کے وزیر تعلیم تھے، انہوں نے از راہ قدروانی پڑھ جا کر اپنے ملکہ کی طرف سے انجمن "الاصلاح" کو دوسروپے سمجھا گئے۔<sup>(۱)</sup>

## اتا ترک کے بارے میں حقیقت حال کا اظہار اور مولا نامدی کی حق پسندی

ہندوستان والپی کے بعد میں نے اپنی تقریروں اور گفتگوؤں میں کمال اتا ترک کے بارے میں اپنے تاثرات کا بے تکلف اظہار کرنا شروع کر دیا، اور وہاں کے اسلام پسند طبقہ کا عام طور پر اس کے متعلق جو خیال تھا اور اس کی "اصلحات" سے اسلام کو ترقی میں جو نقصان پہنچا تھا اور جو معنوی روحانی عملی تسلیکی (GENOCIDE) عمل میں آئی تھی اس کو صاف صاف بیان کرنا شروع کر دیا، تھا رسم الخط کے بدلتے سے جو انقلاب عظیم برپا ہو گیا تھا جس کو فلسفی مورخ توکنی (Toyn Bee) نے اس طرح بیان کیا ہے کہ "اب کسی ملک کے ذمہ پر کتب یا عظیم کتب خانہ کے جلانے کی ضرورت نہیں (جس سے مفت بدنای ہو) کسی قوم کا رسم الخط بدلتے دینا کافی ہے، میرا تہبرہ اور تقدیر ان حلقوں پر بڑی گراں گزری جو کمال اتا ترک کو ترقی کا نجات دہندا اور عظمت انسانی و خدمت اسلامی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر رکھتے تھے، (وچھے صفحہ کا حاشیہ) کہ انسان کے خود ساختہ نظام خواہ وہ کسی ازم کی ہٹکل میں ہوں، انسانیت کے لیے خفت محترم رہاں ہیں، آج دنیا ان ہولناکیوں سے لزراہ بر انہماں اور زمین ان کی خونریزوں سے لالدار ہے، انسان کی نجات اسی الہی نظام میں ممکن ہے جو اسلام کے نام سے دنیا کو بخشنادیا ہے، تاریخ کے صفات شاہد ہیں کہ اسلامی نظام نے اتنی کے چند برسوں میں دنیا کی کایا بلٹ دی عرب کے بدوجن کے ہاتھوں میں کبھی اوث کی مہار رہا کرتی تھی، اب سیاست و جہانگیری کا علم لے کر آگے بڑھے اور رفیع سارے عالم پر چھاگئے۔" (تاریخ نہرو، حصہ دوم، صفحہ: ۳۱۰-۳۱۱) (محور)

اور انہوں نے برملا مجھ سے ناگواری اور ناراضگی کا اظہار کیا۔

اس کے برخلاف واپسی کے قریب ہی زمانہ میں مولانا مدھی لکھنؤ تشریف لائے، میں نے ترکی کے سفر کے حالات و تاثرات بیان کئے، اور اتنا ترک کی اسلام گش پالیسی کا ذکر کیا، مولانا نے ایک نقطہ بھی اس کی حمایت میں نہیں فرمایا اور نہ پھر وہ اونی و رجہ کی ناگواری خاہر ہوئی، ایسا معلوم ہوا کہ ان کے قلب سلیم نے فوراً ان حقائق کو تسلیم کر لیا اور ان کا عمل "در من الحق حیث دار" پر ہے۔

ہم خیل فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں

مجھ پر مولانا کی اس حمایت و ربانیت کا بڑا اثر ہوا کہ ان کے خود یک معیار اسلام ہے، نہ سیاسی کامیابیاں، نہ جنگی فتوحات، نہ مغربی طاقتوں کو چیخ کرنا یا تقصیان پہنچانا۔

افسوں ہے کہ اس کے کچھ عرصہ بعد ہی (دسمبر ۱۹۵۴ء) میں مولانا نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، میں وقتاً فوت معتقد ادا حاضر ہوتا تھا، وفات سے صرف ایک ہفتہ پہلے بھی بفرض عیادت حاضر ہوا، مولانا کے اخلاص و اخلاق اور ان کی سیرت کی مرکزی صفت اور کمالات کے مرکزی نقطہ "عزمیت و حمیت" کا ہمیشہ قائل رہا، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس میں تردید پیدا نہیں ہوا۔ (۱)

## ﴿ باب سوم ﴾

# انسانی و اخلاقی بلندی

## اور استقامت و شجاعت

### انسانی حقیقت و شخصیت

بھی بچپن میں یہ تصور پڑھا تھا کہ "باشتبیوں" کے دلیں میں کسی طرح ہماری اس دنیا کا ایک بلند قامت انسان پہنچ گیا تھا جو عرصہ تک ان کے لیے خوف و رہشت اور تجھب و حریث کا سامان بنارہا، اس کی شخصیت عرصہ تک ان کے لیے ایک معمد اور اس کی بلندی خود اس کے لیے ایک آزمائش بنی رہی، ہم کو معلوم ہیں کہ باشتبیوں (PYGNIES) کی یہ بستی کہاں واقع ہے؟ ظاہر ایک ادیب اور انسان نویس کی انشا پروازی اور نازک خیالی سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اگر آپ نظر غائر سے دیکھیں گے تو یہ خود ہماری اس انسانی بستی کا ایک واقعہ نظر آئے گا جس پر افسانہ کا دھوکہ ہوتا ہے۔

اگر انسان صرف جسم کا نام نہیں اور اس کی بلندی و برتری کا معیار اس کا قدو قامت اور طول و عرض نہیں بلکہ انسان اس پیکر اور قلب کا نام ہے جس کے اندر انسانی حقیقت و شخصیت پائی جاتی ہے اور اس کی بلندی و برتری کا معیار وہ احتیازی اوصاف و اخلاق، سیرت و کردار ہے جس کی بناء پر انسان کو حیوانات اور وسری مخلوقات پر شرف و فضیلت حاصل ہے، اور جن کے بغیر انسان محض منطق کا "حیوان ناطق" ہو کر رہ جاتا

ہے، تو آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہماری اس انسانی دنیا میں زیادہ تر بالشیتی ہی بستے ہیں، اور بالشیتوں کی اس بستی میں کبھی کبھی کوئی بھولا بھکارا بلند قامت مسافر آ جاتا ہے، جس کی بلند شخصیت، بلند مقاصد و عزائم، بلند اخلاق و سیرت، ان کو تاہ قامت، کوتاہ فکر انسانوں کے ایک چیختاں اور خود اس کی زندگی ان کے درمیان ایک آزمائش و مجاہدہ بن کر رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مسافرت کے پیروں پورے ہوں اور وہ اپنے دلیں اور اپنے ہم سروں کے پاس والپیں جائے۔

### حقیقی آدمی

ہر زمانہ کے بلند خیال، بلند نظر انسانوں نے اپنے زمانہ میں آدمیت کی بستی اور "آدمی" کی نایابی کا شکوہ کیا ہے، اور اس سے انکار کیا ہے کہ آدمی کی شکل و صورت رکھتا ہے اور حقیقی لباس میں طبوں ہے وہ ضرور آدمی ہے، ساتوں صدی کے مشہور عارف و حقیقت آشاؤ مردم شاہ بزرگ مولانا روم نے صاف فرمایا۔

ایں نہ مرد اندر لشنا صورت انہ

مردہ ناند و کشتہ شہوت انہ

(ترجمہ: پا آدمی نہیں آدمی کی صورت میں یہ سب روئی پر مر نے والے اور  
شہوت کے مارے ہوئے ہیں)

انہوں نے ایک منظوم حکایت کے پیرایہ میں حقیقی آدمی کے نایاب و عنقا صفت ہونے کو اس طرح بیان کیا ہے۔

وی شیخ یا چراغ ہی گشت گرد شہر

کز دام و دو طولم و انسانم آرزو سوت

ذیں ہرہاں سوت عناصر لم گرفت

شہر خدا و رشم و ستانم آرزو سوت

لتفتم کہ یافت می نشوو وجہتہ ایم ما

گفت آں کہ یافت می نشوو آنم آرزو سوت

(ترجمہ: کل شب ایک شیخ چارغ لے کر شہر کے گرد چکر لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں جانوروں اور چوپا یوں سے بھگ آگیا ہوں، مجھے انسانوں کی خواہش ہے، ان مست اور پیکار لوگوں سے میں دل گرفتہ ہوں، خدا کے شیر اور جنگل کے رشم کی آرزو ہے، میں نے کہا کہ اب یہ جس دنیا میں ناپید ہے، انہوں نے کہا کہ جو چیز نایاب ہوتی ہے، مجھے اسی کی آرزو رہتی ہے۔)

خواجہ حافظ کو بھی اس کی بڑی شکایت ہے، بیش قیمت وزرائی انسانی لباسوں میں بہت سے ایسے لوگ لبوں نظر آتے ہیں جو حقیقت انسانی اور جو ہر آدمیت سے کمتر عاری ہیں، وہ اپنی مشہور غزل "ایں چہ شوریست کہ در در قمری پشم" میں صاف کہتے ہیں:

حقوق زریں ہمس در گردن نرم پشم  
(میں ہر مرد کی گروں میں شہر اپناد پکھتا ہوں)

متبقی کام مشہور معاصر امیر نوجوان شاعر ابو الفراس الحمدانی جس کو حقیقت میں جو ہر شاعری و جو ہر آدمیت دونوں میں متبقی پروفیشن و ترجیح حاصل ہے اپنے زمانہ کے اکثر آدمی کا درندہ صفت انسانوں کے متعلق کہتا ہے:

ذئاب علی اجسادهن ثیاب

(بھیڑیے ہیں ان کے جسموں پر کپڑے ہیں)

پچھلے دور کی ادبیات کا ذخیرہ بھی اس شکوہ و شکایت اور اظہار حقیقت سے لبریز ہے، استادِ ذوق نے ایک اصول اور تجربے کے طور پر کہا تھا:

آدمی کو بھی بہتر نہیں انسان ہونا

ہمارے عہد کے حکیم شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اپنی مشنوی میں کہا ہے۔

مردوں اندر چاں افسانہ شد

آدمی از آدمی بیگانہ شد

(انسانیت دنیا میں افسانہ بن کر رہ گئی ہے، آدمی آدمی سے بے گانہ ہو چکا ہے)

## انسانی پستی

اور یہ سب کسی قحطی طرز فکر اور زندگی کے صرف تاریک پہلو کے مطابع کا نتیجہ نہیں ہے یہ نتیجہ ہے آدمی کے کسی بلند معیار کو سامنے رکھ کر معاصر انسانوں کے اخلاق و صفات کا حقیقت پسندادہ چائزہ اور زندگی کے تین دل ٹکنی تحریبوں کا جب بعض الہ نظر نے اپنے زمانہ کے معاشرہ پر ناقہ نظر ڈالی اور اپنے ہم عصروں اور زندگی کے ہم سفروں کے حالات کا گہرا مطالعہ کیا تو ان کو یہ نظر آیا کہ اکثر ویشتر انسانوں کے اعمال و مسائی، جدو چجد اور تنگ و دو کے اسباب و حرکات نہایت حیری اور پست ہیں، اور ان میں سے اکثر پرمادِ یقین کا معاشری نقطہ نظر اور لفظ و افادہ کے بجائے انتقام و استغادہ کی ذہنیت غالب ہے اور بہت کم انسان ہیں جو اس سطح سے کچھ بلند ہیں جن لوگوں کے ذہن نے اس تکلیف وہ مشاہدہ و تجربہ سے زیادہ چوٹ کھائی اور وہ اس مطالعہ کی تاب نہیں لاسکے، وہ پورے معاشرہ اور معاصر دنیا سے مالیں اور بیزار ہو گئے، اور ان کو ہر ایک طالب و نیا طالب دولت اور معاشری حیوان نظر آنے لگا۔

عبد عالمگیری کے ایک صاحب ذوق و صاحب فضل امیر حسین بن باقر اصفهانی الملقب بخوب اقیاز خاں نے اپنی ایک فارسی تصنیف میں اپنی معاصر سو سائی کے تماں طبقات کا چائزہ لیا ہے اور ہر ہر صفت کے باکمالوں کے کمالات اور کوششوں کا ذکر کر کے فارسی کے کسی قدیم شاعر کے اس مصروف کو دہرایا ہے ۔

آن ہمسہ از پیعے آست کہ زری خواہد

(یہ سب اس لیے ہے کہ اسے دولت چاہیے)

ان کے نزدیک شاہ و وزیر، مرد حکیم و دانا، تاجر و سوداگر، حالم و فاضل، ماہر علم الکیمیا طبیب و حکیم، خوش نویں و خطاط، ادیب و شاعر، یہاں تک کہ زاہد و صوفی سب کی جدو چجد و اطمینار کمال کا مقتدر صرف حصول دولت ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس جمیعی فیصلہ میں سخت مبالغہ اور غلو ہے، ممکن ہے یہ ان کا ذاتی تحریر اور طبعی تاثر ہو لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب کوئی چیز وباۓ عام کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس سے صرف وہی اشخاص محفوظ رہتے ہیں جو نہایت قوی و قوانا، تندرست ہوں یا ان کے پاس اس کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں اور اس کے جرا شیم کو مارنے کی کوئی دوایا تدبیر ہو، معاشریات کے بڑان کے دور میں بھی وہی لوگ اس وباۓ عام سے محفوظ رہتے ہیں جن کی سیرت کی تعمیر و تکمیل کا خاص اعتمام کیا گیا ہو، جن کا نفعون تر کیا حاصل کر چکا ہو، جن کے سامنے انسانیت اور آدمیت خلوص و تحریر اور اخلاص و للہیت کے پکھ رفیع و عظیم الشان ثبوٹے ہوں، جن کی روح کسی یقین سے سرشار اور کسی اور ذات کے سے لذت یا بہادری ہو جس کے سامنے زندگی کی خوش حالیاں اور کامرانیاں بیج اور بے حقیقت بن چکی ہوں۔

### انسانی بلندی کے معیار

عبد الحکیم کے امیر شاعر نواب اقیاز خاں خالص نے زندگی کا ایک ہی پہلو سے مطالعہ کیا اور اس نقطہ نظر سے جب معاصر سوسائٹی کو دیکھا تو سب کو لیلاۓ دولت ہی کا قیس و مجتوں پایا لیکن ان کے زمانہ میں بھی اور ان کے زمانہ کے بعد خاص طور پر عشق و محبت، طلب و جنتو اور عبادت و بندگی کے لیے جمع تھے محبوب اور تھے جمع محبود تراشے گئے، ان میں سے ایک بت شہرت و ناموری ہے، ایک بت عزت و وجہت ہے اور ایک بہت بڑا بت وزارت و حکومت ہے، جو لوگ زیادہ بلند حوصلہ، زیادہ بلند تر ہوتے ہیں اور جن کی غرض پرستی زیادہ دور اندیش اور ذہین واقع ہوتی ہے وہ طلب و دولت کی سطح سے زیادہ بلند ہو جاتے ہیں، اور شہرت و ناموری یا عزت و وجہت کے طالب یا وزارت و حکومت کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں یہ دولت کے پرستاروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ متعزز نظر آتے ہیں اور تیجہ میں ان سے بہت زیادہ کامیاب و کامران ثابت ہوتے ہیں، ایک عالم کا عالم اس نشہ میں سرشار اور ان بتوں کی بندگی و

عبادت میں گرفتار ہوتا ہے، اور جو دولت طلبی کی سطح سے بلند ہو جاتا ہے وہ ان بتوں میں سے کسی نہ کسی بہت کی زلف کا اسیر اور اس کے صید کا شکار ہو جاتا ہے اور جو کسی سیاسی کش مکش یا جنگ آزادی میں ان کے دام میں گرفتار ہونے سے فتح چاتا ہے اور ملخصہ اسے جدو جہد اور مردانہ سر فروشی کی مثال قائم کر دیتا ہے وہ جنگ آزادی کے اختتام اور ملک کے آزاد و باختیار ہو جانے کے بعد استقامت و استفادہ سے اپنے دامن خلوص کو پاک نہیں رکھ سکتا اور اس کی چاہدہ اسے زندگی کا صحیحہ جدو جہد اور رایارو قربانی کے تسلسل اور استغفار و بے نیازی کے واٹی نقش سے خالی ہوتا ہے، ایسا شخص جو معتصم کے تازیانوں اور متولی کی تیاز منداشت پیش کشوں اور عقیدت و دفون کا مقابلہ پکان استقامت و شجاعت سے کرے اور اس کا دامن کسی وقت بھی داغ وارثہ ہونے پائے، دعوت و عزمیت کی تاریخ میں خال خال نظر آتا ہے اور جب کبھی ہوتا ہے اپنے زمانہ کے لوگوں اور اپنے سفر کے رفیقوں میں ایسا ہی یگانہ اور بلند نظر آتا ہے جیسے جن میں سردار آزاد، اس کو خدا کی طرف سے جو لیقین اقیم جبت کی طرف سے جو بے نیازی اور سرور، استادوں کی طرف سے جو استقامت نصیب ہوتی ہے اس کی بناء پر وہ زبان حال سے کہتا ہے

ملک دنیا تن پرستان را ملال  
ما غلام ملک عشق لازوال

(تن پرستوں کو دنیا کے ملک کا ملال ہے اور ہم عشق لازوال کے ملک کے  
غلام ہیں، اس لیے ہمیں کوئی ملال نہیں)

انسانی بلندی و رفعت کا منہما بھی معیار نہیں کہ کسی انسان کا متصدرا پنے محاصرین میں سب سے زیادہ رفیع و عظیم ہو، وہ دولت کا، شہرت و ناموری کا عزت و وجہت اور وزارت و حکومت کا طالب و ساعی نہ ہو اور وہ کسی مرحلہ پر اپنی جدو جہد و قربانی کی قیمت وصول نہ کرے، یقیناً یہ ایک بلند اور بہت بلند معیار ہے، مگر انسانی بلندی کے کچھ اور بھی معیار ہیں، ان میں سے ایک معیار یہ ہے کہ جب اس کی دل سوزی اور درد مندی اس کی ملخصہ جدو جہد اور ہمدردانہ، بے غرضانہ مشورہ کو ٹھکر کر دیا جائے، اس پر

پست و ذلیل قسم کے الزامات لگائے جائیں، اس کی سب سے قیمتی متأخر (ایمان و عقیدہ) اور اس کی سب سے عزیز متأخر (شرافت و خودداری) کوشک کی نگاہ سے دیکھا جائے اور یہ سمجھا اور سمجھایا جائے کہ اس کی سرگرمی وجود و جہد کا محرك و باعث مالی طمع اور ماوی منفعت ہے، اس کا دشام طرازیوں اور سنگ باریوں سے استقبال کیا جائے تو وہ آزردہ اور برافروختہ نہ ہو اس کی طبیعت میں اشتعال اور اس کے دل میں جوش انتحام ش پیدا ہو، وہ اس سب کے جواب میں کہے:

ہنیٹ امریا غیر داء مخامر

لعزہ من أعراضنا ما استحلت

(عزہ ہماری عزت و ناموں پر جتنے حملے کرے اور جو بھی حلال جانے ہماری طرف سے اسے بخوبی اجازت ہے کہ وہ استعمال کرے اور اسے کوئی مرض بھی لاحق نہ ہو)

شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بہت عرصہ پہلے مردان خدا کی یہ صفت بیان کی تھی کہ وہ دشمنوں کی بھی دل آزاری اور دل ٹکّی کے رواد نہیں۔

شنیدم کہ مردان راه خدا

ول دشمنا ہم نہ کر دند نگ

ترا کے میسر شود ایں مقام

کہ باد و ستانت خلافت و چنگ

(میں نے سنا ہے کہ اللہ والوں نے دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھایا، تمہیں یہ مقام بھلا کب حاصل ہو سکتا ہے جب کہ تمہارا تو اپنے دشمنوں سے بھی اختلاف اور لڑائی ہے۔)

لیکن کیا اس سے بھی اونچا یہ مقام نہیں کہ ان دشمنوں اور دشام طرازیوں کے لیے دعا یہ مغفرت کی جائے اور اپنے رب سے شب کی خلوتوں میں پورے خلوص

اور درد سے کھا جائے کہ

جس ہر کہ مارا رنج وادہ راحش بسیار باو

(ہمیں جس نے بھی تکلیف دی، میری دعا ہے کہ اسے بہت سکھ ملے)

یہ انسانی بلندی کا وہ معیار ہے جس پر صرف نائپین انبیاء اور محمد رسول اللہ ﷺ

کے مقرب خلام فائز ہوتے ہیں

جس ایں دولت سرمد ہمہ کس را نہ دہندر

(یہ لازوال دولت ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں)

انسانی بلندی کا تیسرا معیار یہ ہے کہ انسان دوسروں سے نقش اٹھانے کے بجائے  
ہمیشہ لفظ پہنچانے کی کوشش کرے، احسانِ مُنْدَری کے بجائے ہمیشہ اس کے بذل و عطا،  
جو دوستخانہ کا ہاتھ کھلا رہے، وہ اپنے جذبہ احسان و خدمت میں "ساقی" کی فطرت و  
ہمت کا مظہر ہو، جس کی روایت یہ ہے کہ:

"أول الناس سقيا و آخرهم شراباً" اور "أكثرون الناس سقيا وأقلهم شراباً"

(سب سے پہلے لوگوں کو پلانا اور سب کے آخر میں خود پینا، سب سے

زیادہ لوگوں کو دینا اور سب سے کم خود لینا)

عرفی نے بہت عرصہ پہلے اپنے متعلق کہا تھا اگر درحقیقت یہ مردان خدا کی صفت ہے

حدیل ہمت ساقی ست فطرت عرفی

کہ حاتم دگران و گدائے خوبیشن است

(عرفی کی فطرت بھی ساقی کے حوصلہ کی ہمسر ہے کہ دوسروں کے لیے

حاتم اور اپنے لیے فقیر ہے)

نسل انسانی کے بلند ترین افراد (آرواحنا و نفووسنا فداء) نے یہ اصول بتایا تھا

کہ "اليد العليا خير من اليد السفلية" (اوچا ہاتھ (حسن) یونچ کے ہاتھ

(ممنون، احسان) سے بہتر ہے) اور اس اصول پر وہی عمل کر سکتے ہیں جن کے دل

سے دولت دنیا کی محبت اور مال کی قیمت نکل چکی ہو اور ان کی فطری یا آبائی شرافت و حوصلہ مثمری اور جذبہ خدمت و احسان ان کے ہاتھ کو ہمیشہ اوپر کر کے، تکلف سے دو دن چاروں اس طرح زندگی گزارنا آسان ہے مگر ساری زندگی اسی اصول کے ماتحت گزارنا بڑے مزکی نقوص، بڑے عالی مقام انسان کا کام ہے۔

انسانی بلندی کا ایک معیار یہ ہے کہ علمی و روحانی و اخلاقی مدارج عالیہ پر فائز ہونے کے بعد بھی اور خواص کا شہادت و تزکیہ اور خلق خدا کے رجوع عام کے باوجود بھی اپنے نفس سے بدگمانی قائم رہے اور اپنے نفس کا استحضار اور اپنی بے جا عملی کا شکوہ رہے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ایک مشق وقت حضرت نورقطب العالم پنڈویؒ کے متعلق پڑھا ہے کہ شب کی عبادت و گریز اسری کے بعد اکثر ان کو یہ شعر بڑے درد سے پڑھتے ہوئے سنائیا ہے۔

ہے شب بزاریم شد کہ صبا ندارد دلے  
نہ امید صح ششم چھ کشم صبارا  
(میری پوری رات اسی آہ و زاری میں گزر گئی کہ صبا کے پاس دل نہیں  
ہے، مجھے میرے بخت کے صح ہونے کی امید نہیں ہے تو صبا میرے کس  
کام کی؟)

یہ مقام معرفت صح تزکیہ کامل اور فطری عالی ظرفی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا،  
ورثہ اس زمانہ میں اور حقیقتاً ہر زمانہ میں ایسے لوگ رہے ہیں جن کا سارا ادب "انا" اور  
"انائیت" سے بھرا ہوا ہے۔

انسانی بلندی کے اور بھی معیار ہوں گے یہاں اس موضوع پر کوئی مفصل مقالہ اور اس کا علمی جائزہ مقصود نہیں، راقم سطور کے ذہن اور تجربہ میں انسانی بلندی کے جو معیار آئے ہیں اور جن پر بہت کم لوگوں کو جن کو مادی اور علمی حیثیت سے بلند سمجھا جاتا ہے پورا انتہا ہوادیکھا ان کا تذکرہ کرو یا۔

## حضرت مدینی کامقام

حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدینی رحمۃ اللہ علیہ علمی و سیاسی حیثیت سے جس قدر بلند ہوں مجھے اس سے انکار نہیں، لکھنے والے ان گوشوں پر کھیں گے لیکن میرے خیال ناقص میں ان کی جو حیثیت سب سے زیادہ روشن، ممتاز اور مسلم ہے وہ ان کی انسانی باندی ہے۔

علمی و دینی ممتاز شخصیتوں اور وسیع النظر اور تبحر عالموں سے خالی نہیں ان کے سیاسی خیالات سے اختلاف کی گنجائش ہے انہوں نے اپنی بلند نظری سے ملک کی آزادی پر جو توقعات قائم کی تھیں اور اپنی فطری شرافت نفس و پاکیزگی سے اس ملک کی اکثریت کے متعلق جوانہ ازارے لگانے تھے وہ کہاں تک صحیح ثابت ہوئے اور ان کو زبان، کچھر، مذہبی تعلیم اور پرنسپل لا کے تحفظ کے بارے میں (جس کی کانگریس کے مشوروں اور بھارت کے دستور نے ضمانت دی تھی اپنی آخری عمر میں جو ماپیوں ہوئی اور ان کے اپنی سیاسی جدوجہد کے رفیقوں اور جیل کے ساتھیوں کے متعلق) (صاحب اختیار و اقتدار ہو جانے کے بعد) جو شخص اور دل میکن تحریکی ہوئے آج ان کو خواہ زبان پر نہ لایا جائے مگر آنے والے مورخ کے قلم کو ان کے اظہار سے نہیں روکا جاسکتا، مگر جو پھر ہر ڈک و شبیر اور ہر بحث و نزاع اور ہر اختلاف سے بالاتر ہے وہ ان کی بلند سیرت، پاکیزہ شخصیت، بے غرض جدوجہد، بے واثق زندگی اور مکارام اخلاقی ہیں جنہوں نے ان کی ذات کو کھرا سونا اور سچا موتی بنا دیا تھا اور ان کو اخلاقی و طبعی باندی کے اس مقام پر پہنچا دیا تھا جس کے متعلق دو راول کے عرب شاعر نے کہا ہے:

هجان الحی کالذهب المصفی

صیحة دیمة یجنیہ جان

(قبیلہ کے شریف سردار ایسے کھرے سونے کی طرح ہیں جو کسی بارش کی

صحیح کو زمین سے اٹھا لیا جائے اور صاف کر لیا جائے)

اس راقم سطور کو مولانا کو بہت قریب سے ویکھنے اور سفر و حضر میں مختلف حالتوں، رضا و غصب، مشغولیت و فراغت، جلوس و خلوت میں ویکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تقریباً ۱۹۲۷ء سے پہاڑ میں عظیم ڈاکٹر مولوی سید عبدالعلی صاحب مدظلہ کی بدولت ہمارے لکھنؤ کے مکان کو مولانا کی فرد و گاہ بننے کا شرف حاصل ہے، دیوبند کے ابتدائی طویل قیام اور بعد کے منتشر قیام میں مولانا کی زندگی، معمولات اور مزاجی خصوصیات نظر میں رہے۔

راقم سطور نے اپنی ایک تازہ تصنیف "المرتضی" کے "پیش لفظ" میں "مختصر ہاتھ کفتی" کے عنوان سے ایک مبلغ تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کا خفیف لفظی ترمیم کے ساتھ یہاں بھی نقل کر دینا مناسب (اور درجات کے تفاوت کے ساتھ) حسب حال ہے، راقم نے لکھا تھا:

"یہ ایک مبلغ تاریخی حقیقت ہے کہ بہت سی تاریخ ساز، ہمدرد آفرین اور نادر روزگار شخصیات ایسی بھی ہیں جن کی مکمل سیرت (جو ان کی روشن ترین خصوصیات پر حاوی اور ان کے مرکزی اور اہم کمالات و محسنات پر روشنی ڈالتی ہو) عرصہ دراز تک مرتب نہیں ہوتی، اور یہ بات ان کے ماننے والوں اور عقیدت مددوں پر ایک اخلاقی و دینی و علمی قرض کی نوعیت رکھتی ہے، جس کی ادائیگی بعض اوقات انہوں نے بھی کی، جو ان کی تقطیم میں غلو اور مبالغہ سے کام لیتے اور ان سے محبت و وابستگی کو سراپا یہا فخر و شرف سمجھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ قرض ماہ و سال کی مختصر مدت میں ادا ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر طویل مدت گزر جاتی ہے۔"

یہی معاملہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدینی کے ساتھ میں آیا جن کی وفات ۱۳۲/ جمادی الاولی ۱۴۱۳ھ (کویت ۱۹۹۵ء) میں پیش آئی، لیکن تقریباً

نصف صدی گزر رہی ہے کہ ان کی سیرت و تذکرہ میں ابھی تک کوئی شایان شان کتاب ملک کے سامنے نہیں آئی۔

متفرق طور پر مختلف اہل تعلق اور عقیدت نے اس موضوع پر خاصہ فرمائی کی اور ان کی سیمی بہر حال ملکہور ہے، ((اکیں ضرورت تھی کہ کوئی ذی علم فرد خاندان، یا خاندانی، تاریخی و سوانحی، اندر و ان ویپر و ان اور شب و روز کی زندگی کا واقعہ حال، اس وسیع اور نازک موضوع پر قلم اٹھاتا، اور اس سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ مستند مواد، چشم دید و اقعادت، اور مشاہدات و تجربات پیش کرتا۔

(۱) راقم کو اپنا تک یہ معلوم کر کے سرست ہوئی کہ اسی خاندان والا شان کے ایک فرزند مولانا سید فرید الوحدی صاحب جو حضرت مولانا کے حقیقی پستجوہ مولانا سید وحید احمد صاحب مرحوم اسیر المانا کے صاحبزادہ ہیں، انہوں نے مولانا کا مکمل تذکرہ مرتب کر لیا ہے اور اس کی کتابت بھی ہوئی ہے، مولانا نے از رہا تعلق و محبت اور اس علم کی بنیاد پر کہ راقم اور اس کے خاندان کو حضرت مولانا سے گھری عقیدت کا تعلق ہے اس کو مولانا سے جتنی تکمیل کا شرف بھی حاصل ہے، اور اس کے برادر محترم مولانا حکیم فائز سید عبدالعلی صاحب مرحوم (سابق ناظم تدوین العلاماء) مولانا کے دست گرفتہ اور گھرے عقیدت مبنی بھی رہے اور کھنوں میں ان کا مقام مولانا کی مستقل فروگاہ اور جائے قیام تھا مجھ سے متفہوم کئے کی فرمائش کی۔

راقم نے اپنی شدید صور و قیمت، کمزوری صحبت اور مسلسل اسفار کے باوجود اس پر اجمالی نظر ڈالی اور اندازہ ہوا کہ اس تذکرہ میں کم سے کم وہ مواد اور معلومات زیادہ سے زیادہ صحیح ہو گئے ہیں، جو ایک واقع، مبین، مدقیق فرد خاندان ہی جمع کر سکتا ہے، یہ کتاب خاندانی حالات کا اچھا مأخذ ہے، اس میں اولین سفر چاڑی کی دل دوڑ سرگزشت، قیام مدینہ طیبہ کے تفصیلی حالات، مدینہ طیبہ میں ٹھر کی حضرت اور معاشرت کا بولتا ہوا نقش، مالا کی اسیری کے بارے میں تیقین معلومات (جن کا بڑا حصہ انہوں نے اپنے والد محترم سے سنایا) حضرت کے سوانحی حالات مثلاً: دیوبند کی طالب علمی کی تفصیلات، والد ماجد مولانا حبیب اللہ صاحب قادرے تفصیل سے تعارف، اس کے ساتھ سیاسی شعور اور سرگرمیوں کی ابتداء تحریک خلافت کے آغاز کی بعض تیقینی تفصیلات و معلومات، برطانیہ اور عالم اسلام کے بارے میں اس کے کوار اور مفید مواد، اور مولانا کی دھوکی تحریک کی سرگرمیوں، مجاہدات و ایجاد اور ترقیات پر تیقینی مواد تجعیج کر دیا گیا ہے پھر اخلاق و سیرت، معاشرت و تعلقات اور معاملات کے بارے میں اور مفید اجزاء اور پہلو بھی آگئے ہیں جو گھر کا کوئی فرد ہی پیش کر سکتا ہے۔

## اخلاقی بلندی اور شخصیت کی دلاؤزی

سیر و تراجم کے ذوق و مطالعہ پھر خصوصیت کے ساتھ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حکیم سید عبدالحی (سابق ناظم ندوۃ العلماء) کی جلیل القدر تصنیف یا کتب خانہ "نزہۃ الخواطر" (۱) کی آنکھیں جلدیوں کے بار بار مطالعہ و خدمت نے شخصیتوں کو خور سے دیکھئے اور ان کی خصوصیات و اخلاق کا گھری نظر سے مطالعہ کرنے اور ان کو اسلاف کے معیاروں پر چاپنے کی عادت پیدا کروی، اس نقطے نظر اور اس اقتداط کے ساتھ جب مولانا کو دیکھ کر انسانیت و آدمیت، شرافت و سیادت اور اخلاق و کردار کی بڑی بلندی پر پایا اور اسی چیز نے مولانا کی بلندی کا نقش دل و دماغ پر ایسا قائم کیا کہ جب بھی ذہن و ذوق نے ان کے کسی خیال یا کسی علمی تحقیق اور رجحان کا پورا پورا ساتھ دینے سے محذرت کی اور دماغ اس کو قبول نہ کر سکا، ان کی انسانی و اخلاقی بلندی اور ان کی شخصیت کی دل آؤزی آٹے آئی اور دیکھا تو عقیدت و محبت میں کوئی کمی نہ تھی۔

مولانا کو انسانی بلندی کے ان چاروں معیاروں پر پورا پایا، اخلاق و بے غرضی ان کی زندگی کا جو ہر اور ان کے تمام اعمال و مسائی اور سرگرمیوں کا محرك تھا، جس طرح بعض غیر مخلصین کے لیے کسی حالت اور کسی کام میں بھی مخلص بننا مشکل ہے عدم اخلاص اور غرض پرستی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اسی طرح ان مخلصین کے لیے جن کی سرشنست میں اللہ نے اخلاص رکھا ہے غیر مخلص بننا ناممکن ہوتا ہے، ان کی فطرت غیر اختیاری طریقہ پر اخلاص کی طرف چلتی ہے، وہ عمل جس کے اغراض کے ماتحت کرنے

(۱) یہ کتاب عربی میں ہے اور اس کا موضوع ہندوستان کی ممتاز شخصیتوں کے حالات و سوانح ہے، اس میں پہلی صدی ہجری سے چودھویں صدی ہجری تک کے علماء، ادباء، شعراء، ملا طائف و وزراء و اہل کمال کے ذکر کے ہیں، پوری کتاب میں پانچ ہزار کے قریب اعیان و اہل فضل کے حالات آگئے ہیں، مولانا مدفنی اس کتاب کے بڑے قدر داں اور مشتق تھے۔  
(پرانے چارغ: ۹۵/۱، طبع جدید)

کارروائج عام ہوتا ہے وہ بھی اور اغراض سے بالاتر ہو کر پوری قومی یکسونی کے ساتھ  
انجام دیتے ہیں، ہندوستان کی جنگ آزادی میں مولانا نے جو سفر و شاہد اور قائد  
حصہ لیا اور اس راستے میں انہوں نے جو معاشر اور تکالیفیں برداشت کیں انہیں صرف  
اگر یہوں کا (جن کو وہ اسلام اور مسلمانوں کا عدو اکابر سمجھتے تھے) ہندوستان کو آزاد  
کرنے اور اس کی آزادی سے ممالک اسلامیہ کے آزاد ہونے کی سبیل پیدا کرنے اور  
اس سب کے علاوہ اور شاید اس سب کے ہر ابر اپنے اسلاف اور بزرگوں بالخصوص  
اپنے مربی و محبوب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کے اتباع و اطاعت کا  
جذبہ کام کر رہا تھا، اس کے علاوہ کسی مادی مشقحت اور رُزاتی مصلحت کا تصور اور خطرہ بھی  
شاید ان کے دل میں نہ آتا ہو، چنانچہ جب ہندوستان آزاد ہو گیا اور ملک میں حکومت  
خود اختیار قائم ہوئی تو وہ اپنے اصلی کام درس و تدریس اور تزکیہ و ارشاد میں اپنے  
مصروف اور سیاسی جدوجہد کے میدان سے ایسے کنارہ کش ہو گئے جیسے ان کا کام ختم  
ہو چکا ہو، صرف اول کے قائدین میں میرے علم میں تھا وہ ایک شخص تھے جنہوں نے  
اپنی پیچھی سیاسی زندگی اور قریبیوں کی کوئی ادنی سے ادنی قیمت وصول نہیں کی اور وقت  
سے فائدہ نہیں اٹھایا، بہاں تک کہ جب ان کو صدر جمہوریہ ہند کی طرف سے سب سے  
براعز اڑی خطاب عطا کیا گیا تو انہوں نے اس کے قبول کرنے سے صاف معدالت  
کروی اگرچہ ان کی طبعی تواضع اور انکساری نے اس کی وجہ پر بیان کی کہ ”یہاں کے  
اسلاف کرام کے شیوه و مسلک کے خلاف ہے“ مگر جانتے والے جانتے ہیں کہ وہ  
اپنے دامن اخلاص پر خفیف سے خفیف داش بھی گوارانہیں کر سکتے تھے، اس میں کوئی  
شبہ نہیں کہ ان کے اس فیصلہ نے ایک بار پھر اس حقیقت کا اظہار کر دیا:

ع کہ عنقا را باند است آشیانہ

نہ صرف سیاسی جدوجہد بلکہ انہوں نے اپنے کسی جو ہر، کسی کمال، کسی ممتاز، اور  
کسی ہنر کی کوئی قیمت نہیں لی، جو لوگ حقیقت سے آشنا اور حالات سے واقف ہیں وہ

جانتے ہیں کہ دیوبندی کی تجوہ (جس کا مولانا اپنے دنیادار ہونے کا ثبوت دینے کے لیے بار بار اظہار و اعلان کرتے تھے) وہ ان کے وسیع مہمان خانہ کے ایک ہفتہ بلکہ شاید نصف ہفتہ کا بھی خرچ نہیں تھی اور اس کا پڑا حصہ سفروں کی غیر حاضری کی بنا پر کٹ چاتا تھا، اور برائے نام وہ ان کے حصہ میں آتی تھی انہوں نے دراصل اپنی پوری زندگی اختساب و اخلاص میں گزاری، اور اخفاۓ حال کے لیے مدرسہ کی تجوہ (جس سے بدر چہاز اکدان کے شاگروں کوں کوں سکتی تھی) کا ایک پروردہ ڈال رکھا تھا۔

انسانی بلندی کے درمیے معیار یعنی "حُكْمُ الْعَفْوِ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ" اور "إِذْقُنْ بِالْقُنْ هِيَ أَحْسَنُ" پر عمل کرنے اور دشمنوں سے نہ صرف درگز کرنے بلکہ ان کو فتح پہنچانے اور ان کے حق میں دعاۓ خیر کو وظیفہ بنانے میں مولانا افراد فرید تھے، سید پور، بریلی، جالندھر اسٹیشن کے ان واقعات کے بعد جو انسانیت و شرافت کے ابتدائی حدود سے بھی متجاوز اور حشت و رذالت کا منونہ تھے مولانا کی زبان پر کبھی بھول کر بھی کلمہ شکایت یا اظہار حال نہیں آیا بلکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تجد و سور کے وقت مولانا کو ان ناشناسوں کے حق میں گریہ یا زاری کے ساتھ دعا کرتے سن گیا ہے ان دشام طرازوں، بدنام کرنے والوں اور خاک اڑانے والوں کو جب ضروت پیش آئی ہے اور انہوں نے یا ان کے عزیزوں نے مولانا سے کسی سفارش یا خطی کی فرمائش کی ہے مولانا نے بڑی بشاشت اور الشراح خاطر کے ساتھ پر زور الفاظ میں ان کی فرمائش پوری کی ہے اس موقع پر اگر کسی خادم یا رفیق نے ان کا تعارف کرانے اور ان کے پچھلے کارناموں کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے تو اس کو سختی کے ساتھ جھوڑک دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کا عمل اس اسوہ ٹیوپ تھا: "وَأَنَّ أَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأَصِلَّ مِنْ قَطْعَنِي وَأَعْطِي مِنْ حَرَمَتِي" یعنی مجھے میرے رب نے وصیت کی ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے اس کو میں معاف کروں، اور جو میرا مقاطعہ کرے میں اس کے ساتھ سلوک اور صلح رجی کروں جو مجھے خود مرکھے تو اس کو میں عطا کروں۔

## عالی حوصلگی اور وسیعِ نظر فی

مولانا خاندانی یا ذاتی حیثیت سے کوئی ریس و متوال شخص نہ تھے، مگر اللہ نے ان کو باوشنا ہوں کا ساحصلہ اور ظرف دیا تھا، خدا مجھے معاف کرے میں نے غلط کہا کہ اہل اللہ اور بیانیں کا ساحصلہ عطا فرمایا تھا، "إِلَيْهِ الْعُلِيَاٰ خَيْرٌ مِّنَ الْبَادِ السُّفْلِيِّ" پرساری زندگی عمل رہا، بہت کم دوسروں کے ممنون ہوئے اور انہوں نے ایک عالم کو ممنون کیا، ان کا مہمان خانہ ہندوستان کے وسیع ترین مہمان خانوں اور ان کا دستخوان ہندوستان کے وسیع ترین دستخوانوں میں تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا قلب اس سے بھی زیادہ وسیع تھا، بعض واقعیں کا اندازہ ہے کہ پہچاس مہمانوں کا روزانہ واسطہ تھا، پھر اس میں ہر طبقہ اور ہر حیثیت کے لوگ ہوتے تھے، مولانا کی بیاششت، انتظام، مستعدی، اہتمام بجلاتا تھا۔ کہ ان کو کس قدر قلمی صرفت اور روحانی لذت حاصل ہو رہی ہے۔

خیافت اور مہمان نوازی اور اطعام و طعام ان کی روحانی نظر اور طبیعت ٹائیں بن گئی تھی، پھر مہمانوں کے ساتھ وہ جس تواضع اور اکسار اور جس اعزاز و احترام کے ساتھ تھیں آتے تھے ان کو دیکھ کر قدیم عرب شاعر کا یہ شعر بے اختیار یاد آتا تھا۔

وَأَنِي لِعَبْدِ الضَّيْفِ مَادَامْ نَازِلاً

وَمَا شِيمَةٌ لِي غَيْرُهَا مَا تَشَبَّهُ الْعَبْدَا

(میں مہمان کا غلام ہوں، جب تک وہ میرے گھر مہمان رہے، اور زندگی

کاہبی ایک موقع ہے جس میں میں غلام معلوم ہوتا ہوں)

صرف میز بانی اور مہمانی نہیں ہر موقع پر وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کا ہاتھ اور مچا رہے اور استفادہ کے بجائے ان کو نفع و فادہ کا موقع ملے، اگر کسی نے ذرا سماں بھی ان کے ساتھ سلوک کر دیا ہے اور کسی موقع پر کوئی خدمت انجام دی ہے تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس فکر میں رہتے کہ اس کے ساتھ وہ کوئی سلوک کریں اور اس کے حق کو ادا کروں، ہم نے اہل بیت کرام کی سخاوت و شہامت و حوصلہ مندی کے جو واقعات پڑھے ہیں

## ان کا پرتو مولانا کی زندگی اور ان کے بعض معاصرین کبار کے اخلاق میں پایا۔ انکار لشکر اور تواضع

ہم نے جس چوتھے معیار کا ذکر کیا تھا کہ کمال و شہادت کے ساتھ اپنے نفس سے بدگمانی، اپنے نفس کا استھنار، اعلان انسانیت کی بلندی کی دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نفس امارہ کی گرفت اور خود فرمی اور خود پرستی سے بلند ہو گیا ہے، مولانا کی زندگی میں بہت نہایاں اور یہ ان کا حال تھا تعالیٰ نہ تھا۔

مولانا اپنے نام نامی کے ساتھ ہمیشہ ”نگ اسلاف“ لکھا کرتے تھے بعض ناخدا ترس اخبار نویسون نے اس کا مذاق بھی اڑایا، مگر ان کے جانے والے اور ان کے قریب رہنے والے جانتے ہیں کہ کسی کے لیے اس طرح کے القاب و اوصاف ایک رسم اور تنکف ہوں گے، مولانا کا اپنے متعلق یہ عقیدہ تھا اور اس میں کوئی تصنیع کا شانہ پر نہ تھا وہ دل سے اپنے کو ”نگ اسلاف“ سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو ہر طرح سے اپنے اسلاف کرام کا جائشیں اور نعم الخلف لنعم السلف کا مصدقہ بنایا تھا۔ اس لقب کے علاوہ وہ اکثر ایسے اشعار پڑھے درد سے پڑھتے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ مولانا اپنے وجود سے بڑے شرمندہ ہیں اور اپنے کو کسی قابل نہیں سمجھتے، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ (جب میری عمر بھی کم تھی) میں مولانا کے ہاتھ دھلارہ تھا مولانا اوضو فرمائے تھے یہ شعر پڑے درد و حسرت سے پڑھ رہے تھے ۔

ذہب الذین یعاش فی اکنافهم

بقی الذین حیا تھم لاتنفی

(وہ لوگ تو چلے گئے جن کے سایہ میں زندگی گزاری جاتی تھی، وہ لوگ رہ گئے جن کی زندگی پکھ کا آٹھیں)

اکثر وہ یہ شعر (خصوصاً جب کوئی بیعت کی درخواست کرے) پڑھتے تھے۔

نہ گلم نہ برگ سبزیم نہ درخت سایہ دارم  
در حیرم کہ دھقاں بچہ کا رشت مارا

مولانا کے خطوط و مکاتیب سے بہت سے ایسے اقتباسات و متنقلات پیش کیے جاسکتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولانا پنے کو کیا سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اپنے اور ان کا نفس اور ربے نفسی کے مقام رفیع پر پہنچایا تھا۔ (۱)

### اخلاق و انسانیت کا خسارہ

مولانا کی وفات سے علم و سیاست کی بزم میں جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کا افسوس کرنے والے اور اس خلاء کو محسوس کرنے والے بہت ہیں، لیکن اخلاق و انسانیت کی صفائی اور شہنشہنشیں میں جو چکہ خالی ہوئی ہے اس کا احساس کرنے والے شاید کم ہیں، شاید اس لیے کہ انسانیت کوئی ایسا مرتبہ نہیں سمجھا جاتا کہ کسی بزرگ یا عالم کو اس کے معیار سے چاپھا جائے، اور کسی ”مردِ کامل“ کے اٹھ جانے سے کوئی خلائق کیا جائے مگر میرے نزدیک آدمیت کے اس قحط اور انسانیت و اخلاق کے انحطاط عام کے اس دور میں مولانا مدھی کا حادثہ وفات ایک بڑا اخلاقی خسارہ اور انسانی حادثہ ہے۔

ع اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خوش ہے

(۱) میں نے اس مضمون میں جو کچھ لکھا ہے اس کا التزام کیا ہے کہ وہ صرف میرے مشاہدات اور ذاتی معلومات پر مشتمل ہو، افسوس ہے کہ یہ مضمون حالت سفر اور تعلق و تحرکت میں نہایت عجلت میں لکھا چاہا ہے، ورشاں میں بہت تفصیل کی تجویز تھی۔

## بَابُ چِهارم

# او صاف و خصوصیات، احتیازات و کمالات

## مجد و اندہ عزیمت و بصیرت

پاکستان کے بن جانے اور ہندوستان کے حالات کے غیر قیمتی ہونے کی بنا پر  
مسلمانوں کے قدم ہندوستان میں ڈگنگئے اور بڑے بڑے پھاڑ ترزل میں آگئے،  
اور پاکستان ہجرت کر جانے کا ایک ایسا وسیع اور طاقتو ر بجان بلکہ نشہ سب پر چھا گیا  
جس کو تھامنا اور مسلمانوں کو اس ملک میں مقیم رہنے پر آمادہ کرنا مجد و اندہ عزیمت و  
بصیرت کا طالب تھا، اس کے لیے غیر متزلزل یقین، اعتقاد علی اللہ اور زبردست  
روحانیت اور قوت ایمانی کی ضرورت تھی، یہ مسئلہ اگرچہ سارے ہندوستان کا تھا اور ضلع  
سہارپور میں جمنا کے مشرقی کنارے سے لے کر دیارے ہنگلی تک اسی کی الہ پھیلی ہوئی  
تھی، مگر سب سے بڑھ کر یہ سہارپور کے سرحدی ضلع کا مسئلہ تھا، اور درحقیقت یہی ضلع  
ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن بننا ہوا تھا، اگر ضلع سہارپور  
اکھڑتا اور وہاں سے مسلمانوں کا مجموعی انخلاء شروع ہو جاتا پھر ضلع مظفر گیر، میرٹھ اور  
ضلع بجور کی باری تھی، جو اس سے متعلق تھے، اس کے بعد سراہ آباد کا انتبار شہ تھا، اور اس  
کے متعلق یہ تھے کہ یوپی جو مسلمانوں کا تہذیبی اور دماغی مرکز ہے مشرق پنجاب بن جاتا  
اور ہندوستان خدا خواستہ دوسرا اپنیں بن کر رہتا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص اور اس کی کار سازی تھی کہ اس سرحدی ضلع میں

مسلمانوں کے اندر استقلال و ثبات پیدا کرنے، حالات کا مقابلہ کرنے کا عزم اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سینہ سپر ہو جانے کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے اور اکھڑے ہوئے قدموں اور ڈگگاتے ہوئے دلوں کو جمانے کے لیے اس نے تین شخصیتیں عطا فرمائیں، جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی اس گرفتی ہوئی عمارت کو تھامنے کے لیے تین ستونوں کا کام کیا، ایک حضرت مولانا عبدالقدور رائے پوری جو بالکل جمنا کے مشرقی کنارے اور یوپی کے آخری سرحدی لکیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سہارپور میں تشریف رکھتے تھے، تیسرا حضرت مولانا حسین احمد مدفنی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے رکن رکنین اور پورے صوبہ، ملک کے مسلمانوں کے اس وقت پشتیبان بنے ہوئے تھے۔<sup>(۱)</sup>

### مجاہدہ واستقامت

حضرت مولانا سید حسین احمد مدفنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے نفرت و عداوت، ملک کی آزادی سے غیر معمولی شغف اور عشق اور اپنے اخلاص میں بجا طور پر اپنے شیخ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے جاثشیں تھے، انہوں نے اور جمیع العلماء کے دوسرے ارکان نے مسلمانوں کے بہت بڑے طبقہ کی (جومسلم لیگ کا حامی تھا) ناراضی، خصہ، اور توپین خندہ پیشانی سے برداشت کی، مولانا مدفنی نے یہ سال (۱۹۲۷ء)<sup>(۲)</sup> سخت مصروفیت، اشہاک، چدو چھدا اور مشقت میں گذارے، انہوں نے پڑا روں میں کاسفر کیا، شہر شہر، قصبه قصبه گئے، اس دست میں ان کی مہمیجی اور اخلاقی زندگی بے داش اور ہر شعبہ سے بالاتر تھی، ان کے اخلاص پر موافق و مخالف سب کا اتفاق ہے، جب ہندوستان آزاد ہو گیا اور ملک کی آزادی اور اپنی حکومت سے فائدہ اٹھانے کے نزدیں

(۱) سوانح عبدالقدور رائے پوری: ۱۵۳-۱۵۵

(۲) یہ ملک ہندوستان کی تعمیم کا سال ہے، جس میں ملک کے لوگ شدید دشوار یوں، مشکلات اور مصائب سے دوچار ہوئے اور لعل آبادی کے مسئلے سخت حالات سے گزرنا پڑا تھا، ان حالات میں حضرت مولانا حسین احمد مدفنی کی ذات گرامی سب سے زیادہ تقویت کا باعث تھی۔ (ناشر)

وپھرین مواقع حاصل ہوئے تو تھا انہیں کی ذات تھی جس نے اپنی ذات کے لیے ادنی نفع حاصل کرنا گوارہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب ۱۹۵۴ء میں ان کو صدر جمہوریہ پاکستانے ”پدم بھوشن“ کا اعزازی خطاب دیا تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ یہ ان کے اسلاف کی روش کے خلاف ہے اس کو قول کرنے سے مذہرات کر دی، اس میں شبہ نہیں کہ ملک کی آزادی سے انہوں نے جو بلند توقعات قائم کی تھیں ان میں سے بہت سی پوری نہیں ہوئیں اور ان کو اس دور میں بعض ایسے تفجیح تجربے ہوئے جنہوں نے ان کا دل توڑ دیا، لیکن جنگ آزادی کی کھلمن گھڑیوں میں ان کے پایہ ثبات میں کبھی لغزش اور آزادی کے بعد کے دور میں ان کے اصول و نظریات میں کبھی تغیری نہیں آیا۔<sup>(۱)</sup>

### عفو و درگزار

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ: میرے رب نے مجھے نوباتوں کا حکم دیا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ ”أن أصل من قطعنى وأعفو عن ظلمى و أعطى من حرمنى“ (میں اس سے رشتہ جوڑوں جو میر ارشاد ناطے کا ہے، اس کو معاف کرو، جو مجھ پر ظلم کرے، اس کو عطا کروں جو مجھے محروم کر دے)

جو دوستی اور محبت کا معاملہ کرے اس سے اپنے تعلقات رکھنا کوئی کمال نہیں، اعلیٰ بات تو یہ ہے کہ جو دشمنی کرے، نقصان پہنچائے اس سے حسن سلوک کیا جائے، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا ہمیں عمل تھا، حضرت مولانا سید حسین احمد ملتی ہندوستان کی تفہیم کے تحت مخالف تھے، وہ ہندوستان میں مسلمانوں کو رکھنا چاہتے تھے، پاکستان کے قیام سے انہیں اتفاق نہیں تھا، اس وجہ سے انہیں بہت تکلیف دی گئی، تو ہیں کی گئی، بعض مرتبہ تو ان کی جان پر بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا، سید پور میں لوگ ان پر پتھر پھینک رہے تھے اور مولانا مدنی آفکھیں بند کئے مراقبہ میں پیٹھے تھے، چوتھا لگ رہی تھی، اور آپ صبر و ضبط کئے رہے، پھر اللہ نے ان گستاخی کرنے والوں اور ایذا

(۱) ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ: ۱۷۶

پہنچانے والوں کے ساتھ جو کیا وہ کیا، کوئی تالاب میں ڈوب کر مر گیا، کوئی پاگل ہو گیا، لیکن دیکھنے والوں نے مجھ سے بیان کیا اور خود میں نے دیکھا کہ ۱۹۷۱ء کے بعد جب یہاں کا انگریزی حکومت قائم ہو گئی تھی، جب وہ مخالفین سامنے آتے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ ملتے، اگر کوئی اپنے رویے کی معافی پاہتا تو فرماتے کہ کوئی بات نہیں مجھ کوئی شکایت نہیں، آپ اطمینان رکھیں، لیکن جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھنے والوں نے بیان کیا کہ حضرت مولانا مارٹی رورو کر دعا فرماتے تھے کہ ”یا اللہ! اب ان کو معاف فرماء، یا اللہ! میری طرف سے ان کو معاف فرماء، میری طرف سے کوئی دار و گیر نہ فرماء، میری ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچا“۔ (۱)

### حق پسندی

(ترکی سے) ہندوستان واپسی کے بعد میں نے اپنی تقریروں اور گفتگوؤں میں کمال اتارتک کے بارے میں اپنے تاثرات کا بے تکلف اظہار کرنا شروع کر دیا اور وہاں کے اسلام پسند طبقہ کا عام طور پر اس کے متعلق جو خیال تھا اور اس کی ”اصلاحات“ سے اسلام کو ترکی میں جو نقصان پہنچا تھا اور جو معنوی روحانی و علمی نسل کشی (Genocide) میں آئی تھی اس کو صاف صاف بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ رسم الخط کے بدلت جانے سے جو انقلاب عظیم برپا ہو گیا تھا جس کو فلسفی مورخ توین بی (Toyn Bee) نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ”اب کسی ملک کا ذیخیرہ کتب یا عظیم کتب خانہ کے جلانے کی ضرورت نہیں (جس سے مفت میں بدنای ہو) کسی قوم کا رسم الخط بدلت جانا کافی ہے“، میرا یہ تبصرہ اور تنقید ان حلقوں پر بڑی گران گذری جو کمال اتارتک کو ترکی کا بجات وہندہ اور عظمت انسانی و خدمت اسلامی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر رکھتے تھے اور انہوں نے بر ملا مجھ سے نا گواری اور ناراضگی کا اظہار کیا۔

اس کے بخلاف واپسی کے قریب ہی زمانہ میں مولانا مدھی لکھنؤ تشریف

(۱) تحریک انسانیت: ۱۹۷۳ (حدیث ماوہ) مطبوعہ مجلس تحقیقات و تحریکات اسلام، لکھنؤ

لائے، میں نے ترکی کے سفر کے حالات و تاثرات پیان کئے، اور اتازہ کی اسلام کش پاپیسی کا ذکر کیا، مولانا نے ایک لفظ بھی اس کی حمایت میں نہیں فرمایا، اور نہ چورہ پر ادنیٰ درج کی تاگواری ظاہر ہوئی، ایسا معلوم ہوا کہ ان کے قلب سلیم نے فوراً ان حقائق کو تسلیم کر لیا، اور ان کا عمل "در مع الحق حیث دار" پر ہے۔  
ع ہم سخن ٹھیم ہیں غالب کے طرف دار نہیں

مجھ پر مولانا کی اس حقانیت و ربانیت کا بڑا اثر ہوا کہ ان کے نزدیک معیار اسلام ہے، نہ سیاسی کامیابیاں، نہ جنگی فتوحات، نہ مغربی طاقتیں کوچیخ کرنا یا انتصان پہنچانا۔<sup>(۱)</sup>

### خور و نوازی

یہاں پر حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی کا ایک مکتوب درج کیا جاتا ہے جو بھائی صاحب کے نام لکھا گیا تھا، بھائی صاحب نے ازراہ شفت میری حقیر و عوتی کوششوں کی اطلاع اپنے ایک خط میں مولانا کو دی تھی، تاکہ وہ خوش ہوں اور میرے حق میں دعا فرمائیں، ۱۵/ ربیع الاول ۱۳۷۲ھ کا لکھا ہوا مکتوب گرامی یہاں درج کیا جاتا ہے کہ اس کو اپنے حق میں ایک بشارت اور تبرک سمجھتا ہوں۔

محترم المقام زید محمد کم  
السلام علیک و رحمۃ اللہ و برکاتہ

مزاج مبارک.....

والا نامہ باعث سرفرازی ہوا، مولوی علی میاں صاحب کی خبریں رو ساء تبلیغ مولانا محمد یوسف صاحب اور دیگر حضرات سے معلوم ہوتی رہتی تھیں، مگر آپ کی تحریر سے تفصیلات معلوم ہوئیں، اور مزید اطمینان ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کرم کار ساز موصوف کو مقام خیر اور مغلائق شر بنائے، اور حضرت سید صاحب شہید قدس اللہ سرہ العزیز کی تجدید بیان اسلامیہ کی خدمت عالیہ کا علم بردار بنا کر نعمائے لدنیہ سے

(۱) کاروان زندگی: ۱/ ۲۳۶-۲۳۷، مطبوعہ مکتبہ اسلام للھستو

مالا مال کرے۔ آمين۔

والسلام  
بنگ اسلاف  
حسین احمد غفرلہ  
۱۵ / ربیع الاول ۱۴۳۲ھ

## علمی کاموں میں تعاون

بظاہر اس کی امید نہیں باقی رہی (تحتی) کہ کتاب (نزہۃ السنوات) کی بقیہ جلدیں جو زیادہ ضخیم تھیں شائع ہو سکیں گی، لیکن ان کی طباعت کا اس طرح غیر سے سامان ہو گیا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدھیؒ کو اپنے خاندانی بزرگوں کے حالات کی خلاص تھی جو کہیں دستیاب نہیں ہوتے تھے، لکھنؤ کے ایک سفر میں مولانا نے اس کتاب کا مطالعہ فرمایا اس میں سے اکثر کے حالات اس کی غیر مطبوعہ جلدیوں میں مل گئے، مولانا نے اس پر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا، اور خود مولانا ابوالکلام سے جن کی وزارت تعلیم سے دائرة المعارف (حیدر آباد) (۱) کا خصوصی تعلق تھا اس سلسلہ کی تینجیل کی تحریک کی، مولانا آزاد مصنف مرحوم اور کتاب سے ذاتی طور پر واقف تھے، انہوں نے اس کتاب کی اہمیت و افادیت کا اعتراف کیا، اور اس کا وحدہ فرمایا کہ وہ دائرة کو اس کی طرف متوجہ کریں گے، چنانچہ ان کی تحریک سے بقیہ جلدیوں کی طباعت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ (۲)

## سرماہیہ ملت اور علمی شخص کے تحفظ کی کوشش

مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کی روح کا یہی پیغام ہے، حضرت شیخ الہند اسی فکر

(۱) دائرة المعارف اعضا ایم حیدر آباد مشہور اور مستبدرا شائعی ادارہ ہے، جس نے نزہۃ السنوات کی اشاعت کا کام شروع کیا تھا مگر بعض حالات کی وجہ سے یہ سلسلہ رک گیا تا جو حضرت مدھیؒ کی کوششوں سے جاری ہوا۔ (مجموعہ) (۲) حیات عبدالحی (۱۹۹۲ء)، سید احمد شہید اکیڈمی، دارعرفات

میں پھلتے اور گھلتے رہے، حکیم الامت حضرت قہانویؒ اور مولانا نامدیؒ (اپنے خاص طرز اور اسلوب سے) اسی کے لیے ہمیشہ سوزاں ولزماں رہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنی خصوصیات اور طبیعت کے ساتھ اس ملت میں باقی رہیں، قرآن و سنت کو سینہ سے لگائے رکھیں، اختلافی مسائل چھیڑنے کے بجائے تو حید و سنت پر زور دیں، دیوبند کا یہی پیغام ہے، اور یہی اس کی خصوصیت رہی ہے کہ اس نے سرمایہ ملت کو بچانے کی کوشش کی۔ (۱)

## ذکر

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلویؒ نے ارشاد فرمایا:  
 ۱۔ رنگ لاتی ہے تھا پھر پر گڑ جانے کے بعد  
 دیکھو تنا (مہندی) کی پتی جب رگڑ دی جائے تو وہ رکھیں بنا دیتی ہے، اور  
 اگر بغیر رگڑے ہوئے اسی کے پتے رکھ دیئے جائیں تو کچھ نہ ہوگا،  
 حضرت مدینیؒ فرماتے تھے کہ ”مسجد اجابت میں ذکر کرتا تھا، جی چاہتا تھا  
 کہ اس کی دیواروں سے سر پھوڑوں“۔ (۲)

## رمضان کا اہتمام

ہمارے علم میں اس اخیر دور میں جس نے اسلاف کی اس سنت ویریثہ کو زندہ کیا اور اس کوئی آب و تاب بخشنی وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدینیؒ کی ذات پا بر کات تھی، انہوں نے اپنے مخصوص طالبین و تخلصیں کی درخواست پر کسی ایک جگہ قیام کر کے رمضان المبارک کے گزارنے کا معمول بنالیا، اور اطراف و اکناف بلکہ ملک کے دور دراز گوشوں سے مشتمل اور ارادت مند پروانہ وار جمع ہونے لگے، حضرت نے ایک عرصہ تک سلبہت میں رمضان المبارک گزارا، پھر کئی سال بانس کنڈی (بنگال) میں رمضان گزارا، ایک دو سال اپنے وطن مالوف الہ را دلپورہ متصل

(۱) کاروان زندگی: ۳۱۰/۲: (۲) سوانح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب: ۲۵۹:

ٹانڈہ ضلع فیض آباد خاص اپنے دولت خانہ پر رمضان المبارک گزارا، ان سب مقامات پر سینکڑوں کی تعداد میں مریدین و خدام اور اس ماہ مبارک کے قدروں جمع ہوئے جو آپ کے مہمان ہوتے، آپ ہی ان مقامات پر قرآن شریف سناتے، لوگ ذکر و شغل، تلاوت و حجامت میں پوری سرگرمی و عالیٰ ہمتی سے مشغول رہتے، خدام کو بڑی کیفیات و ترقیات محسوس ہوتیں، اور وہ عرضہ تک مزے لے لے کر ان پر کیف و پر سرور ساعتوں کا ذکر کرتے، اگر اللہ کو منظور ہوتا اور مولانا کی زندگی و فاکری تو قالاً اللہ واد پورہ میں یہ مبارک سلسلہ چاری رہتا، اور خدا جانے کتنے بندگان خدا اپنی صراحت کیف نہیں اور تربیت و تکمیل کے مدارج سے گزرتے، لیکن مولانا کی وفات (یوم جھراث ۱۳/۱۲ جمادی الاولی ۱۳۷۵ھ / ۱۹۵۶ء) نے اس سلسلہ کو منقطع کر دیا اور لوگ کف افسوس ملتے رہ گئے۔ (۱)

(۱) سوانح صحیح الحدیث حضرت مولانا محمد رضا صاحب: ۱۲۴-۱۲۵

## باب پنجم

# مجاہد انہ کارنائے

### الفاظ و اوصاف کا درجہ حرارت

میں نے رابطہ ادب اسلامی کے ایک جلسہ میں "ادب التراجم" کے عنوان سے شخصیتوں کے تعارف، سوانح نگاری کے آداب و نسبیات اور تاریخ فویسی کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح انسانی جسم، خارجی اشیاء، موسوموں، مقامات اور شہروں کا درجہ حرارت و برودت (TEMPERATURE) ہوتا ہے اور ان کا استعمال اسی طرح الفاظ و اوصاف کا بھی ایک درجہ حرارت و برودت ہوتا ہے اور ان کا استعمال اسی اعتبار کے ساتھ صحیح محل و مقام اور مدد و موضع کے اعتبار سے ہونا چاہیے اگر اس میں ناسِب و مطابقت اور احتیاط و احساس ذمہ داری اور ادائی شہادت کے فریضہ کا احساس نہیں کیا گیا تو وہ الفاظ اپنی قدر و قیمت کھو دیں گے، اور نہ صرف یہ کہ ان کی قدر و قیمت جاتی رہے گی، بلکہ جن کے لیے وہ الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ان کی قدر و قیمت اور ان کی عظمت و اہمیت کا احساس بھی نہیں ہو سکے گا، اور ایک واقف و باخبر انسان، ثقادر معاصر اور غارہ نظر سے مطالعہ کرنے والے کو حضرت کے ساتھ کہنا پڑے گا۔

ج اب آہر وے شیوه اہل نظر گئی

لیکن ایک تلخ تاریخی حقیقت، اور ادبی و قصہ نویسی کی یہ ہے کہ ان تعارفی و توصیفی الفاظ کا اکثر اور خاص طور پر بچھلے دور میں بڑی فیاضی اور بے احتیاطی کے ساتھ استعمال ہوا

ہے، ”ایشار و قریانی“، ”جانبازی و سرفوشی“، ”جادہ انتکار نامے“، ”مجہد ائمہ فکر و نظر“ حتیٰ کہ نہ آمد روزگار، نادرہ حصر اور عقربی شخصیت (GENIUS) جیسے الفاظ کا استعمال بھی اکثر مبالغہ آرائی کے ساتھ اور ضروری احساس ذمہ داری کے بغیر ہوا ہے۔

### جمیت و عزیمت کا استعمال

انہیں تھارنی و تصویبی الفاظ میں ”جمیت“ و ”عزیمت“ کے عینق، بلند پایہ اور احتیازی اوصاف بھی ہیں، جن کی مصدق اسلام کی تاریخ دعوت و عزیمت، اصلاح و انقلاب اور جہد و چادیں ہر دور میں محدودے چند شخصیتیں ہوتی ہیں، جو کسی مخالف اسلام یا دشمن حق جیروتی طاقت کے مقابلہ پر آئیں، ”سلطان جائز“ (جو کسی رائے عامہ، مقبول قیادت اور گوای جوش و خروش کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے) کو منہ پر گلہ حق کہا، کبھی کسی صاحب شوکت و سطوت سلطنت کے مقابلہ میں صفات آ رہے ہیں، جس کا ستارہ اقبال بلند تھا اور جس کے متعلق کبھی کبھی کہا جاتا تھا کہ ”اس کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا“، جنہوں نے دین کی جمیت اور حق کی حمایت میں ہمیشہ ”رخصت“ پر ”عزیمت“ کو اور سکون و اطمینان کی زندگی اور اعزاز و فخار کے مناصب و موقع پر قید و بند اور طوق و سلاسل کو ترجیح دی، اور جن کی اسلام کی بے کسی، مسلمانوں کی بے لکی، شعائر اسلامی کی اہانت، آزاد و باعظمت اسلامی سلطنتوں اور ملکوں کی پامالی پر راؤں کی فیض حرام اور دن کا سکون غائب ہو گیا اور جن کی زبان حال کہتی تھی۔

اک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، اک دروساول میں ہوتا ہے

ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں، جب سارا حالم سوتا ہے

لیکن ان الفاظ ”جمیت“ و ”عزیمت“ کا استعمال بھی ہمارے پچھلے دور کے سوائی لشی پچھر اور سیاسی و دینی جلسوں کے سلیق پر ہونے والی تقریروں میں ایسی فراخ دلی اور اس کثرت کے ساتھ ہوا کہ ان الفاظ میں بھی کوئی جاذبیت اور وزن نہیں رہا، چنانچہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے میں نے پہلے ”مکتوبات شیخ الاسلام“ مرتبہ مولانا نجم الدین اصلحی کے حصہ دوم (شائع شدہ ۱۹۵۴ء) کا مقدمہ لکھتے ہوئے پہلی بار لکھا تھا کہ:

”ایک جامع فضائل، ہستی کے بارے میں یہ اندازہ لگانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فضائل و مکالات میں مرکزی و نمایاں صفت کون سی ہے جس کو اس کی شخصیت کی کلید قرار دیا جائے، اور جس سے اس کی زندگی و خصوصیات کو سمجھنا آسان ہو جائے؟ مولانا کو بہت سے لوگ ایک عالم اور محدث کی حیثیت سے جانتے ہیں، بہت سے لوگ ایک سیاسی رہنما اور مجاهد کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو ان سب فضائل سے آراستہ کیا ہے، لیکن میری کوتاہ نظر میں دو صفتیں آپ کی زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، جنہوں نے آپ کو اپنے معاصرین میں ممتاز بنایا ہے، ایک ”عزیمت“ دوسرے ”محیت“۔<sup>(۱)</sup>

پھر ۱۹۸۴ء میں اپنی کتاب ”پرانے چراغ“ کے حصہ اول میں (اس مضمون میں جس میں مولانا کے بارے میں اپنے دید و شنید اور مشاہدات و تاثرات کا ذکر کیا ہے) اسی مضمون کو منصرف ادھر ایا ہے، لیکن جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، ان اوصاف، محیت و عزیمت، یا عزیمت و محیت کا عرصہ سے ایسا موقع بے موقع استعمال کیا گیا تھا اور گوش و نظر ان کے سچے وزن اور ان کے درجہ حرارت اور ان کے اس سلسلہ میں اقبال کے الفاظ میں ”ذنوں کی تپش اور شبوں کے گذار“ پھر ان کے ہدف و نشانہ کی باندھی اور ان کے میدان کی وسعت اور اس میدان کی دشوارگزاری اور خارجہ ای سے اتنے نا اتنا

(۱) مقدمہ ”مکتوبات اسلام“: ۱۱

تھے کہ لکھنے والے کا یہ اس غالباً خلاف واقعہ نہ ہو گا کہ مولانا کے عقیدت مندوں کے وسیع حلقہ میں ان مضامین کے پڑھنے والوں میں سے ایک تعداد نے اس کو مولانا کی بلند پایہ ذات کے ساتھنا انصافی شمار کیا، اور اس مضامون نگارکی (جس کو خانقاہ اس مجموعہ مکاتیب پر مقدمہ لکھنے کی زحمت دی گئی) نظر نارسانی اور قلم کی کوتاه بیانی پر محول کیا، لیکن مجھے اس حقیقت کے اظہار میں اب بھی کوئی تردید یا اس اظہار خیال پر نہ امتحان کیا کوئی احساس نہیں ہے، اور میں اب بھی ان دونوں انتیازی صفات کو مولانا کی کثیر الجھبات اور عظیم الصفات والکمالات ذات میں مرکزی مقام اور ان کو ان کی انفرادیت سمجھنے کے لیے ”شاہ کلید“ کا درجہ دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس جبروتی طاقت اور عظیم سلطنت کے مقابلہ میں وہ میدان میں آئے، اس کا (جہاں تک اسلام اور مسلمانوں، خلافت اسلامی اور آزاد حمالک اسلامیہ اور خود ہندوستان کا تعلق ہے) تاریخی کروار، اس کی اسلام دشمنی، اسلامی سطوت وحدت کی شیخ کنی، اور خلافت اسلامیہ اور سلطنت عثمانیہ کے زوال واستیصال میں اس کا قائدانہ حصہ، جزیرہ العرب، جیاز مقدس اور ان عرب حمالک پر اثر و نفوذ قائم کرنے کی کامیاب جدوجہد جو گوت اسلامی کا شیخ و سرچشمہ، مقامات مقدسہ پر مشتمل اور مسلمانوں کی عقیدت و محبت کا مرکز ہیں، نیز اس عظیم مردم خیز، تاریخ ساز جدیدی و اصلاحی تحریکوں اور علوم دینیہ اسلامیہ کے آخری مرکز ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ اور وہاں کی اس مسلم آبادی پر جس نے اس ملک پر آٹھ سو برس تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی تدبی و تہذیبی، علمی و فکری، سیاسی و انتظامی طور پر اس کو چار چاند لگائے اور اس کو بھلی مرتبہ سیاسی وحدت و مرکزیت اور انسانی وحدت و مساوات اور سماجی عدل و انصاف سے آشنا کیا، ان سفرا کا نہ مظلالم کی داستان بھی سامنے ہو جن کا اعتراف انگریز مصطفیٰ و مورخین اور عسکری و انتظامی شعبے کے ذمہ داروں نے بھی کیا ہے، اور جن کو پڑھ کر آج بھی روشنگئے کھڑے ہو جاتے ہیں..... تاریخی عہد کے تقدیم و

تاریخ کے لحاظ سے پہلے یہ داستان ہندوستان ہی کی کہانی سے شروع کرتے ہیں، جو انہیوں صدی کے وسط کا زمانہ ہے، اس کے بعد خلافتِ اسلامی سلطنتِ عثمانیہ اور بادشاہی عربیہ کے سلسلہ میں اس کے مجرمانہ سیاسی کردار کا ذکر کریں گے۔

### جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار

۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی (جس کو انگریز مصطفین کی تقلید میں ۱۸۵۶ء کا غدر کہا جاتا رہا ہے) صحیح معنی میں عوامی اور قومی چدو چھڑی اور ہندو مسلمان سب اس میں شریک تھے، ہندوستان نے وطن پرستی، اتحاد و گرم جوشی اور جوش و ولاء کا ایسا منظر کیا کہ نہ یکھا تھا جیسا کہ اس وقت دیکھنے میں آیا، پھر یہ واقعہ ہے کہ قیادت اور رہنمائی کے میدان میں مسلمانوں کا پلاڑا بھاری تھا، اس کا اکثر قائد مسلمان ہی تھے، اور جیسا کہ سروبلیم ہنزرنے لکھا ہے:

”اس جنگ میں وہی چنگاریاں کام کر رہی تھیں جو حضرت سید احمد شہیدؒ کی

تحریک اور مجاہدین نے فروزان کی تھیں“ (۱)

جنگ آزادی کی پہلی کوشش جب ناکام ہوئی تو انگریزوں نے ہندوستانیوں سے سخت انتقام لیا، جس کی داستان لرزہ خیز اور ہوش رہا ہے، یہ ایک قتل عام اور نسل کشی تھی لیکن مسلمان خاص طور سے اس کا نشانہ تھے، اس لیے کہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسلامی جہاد تھا اور مسلمان اس بغاوت کے بانی، قاتل اور رہنمای ہیں۔

ایک انگریز مصنف (HENRY MEAD) کہتا ہے:

”اس سرکشی کو موجودہ مرحلہ میں سپاہیوں کی بغاوت کا نام نہیں دیا جا سکتا،

یقیناً اس کا آغاز سپاہیوں سے ہوا لیکن بہت جلد اس کی حقیقت آٹکارا

(۱) تفصیل کے لیے ملاحظہ بوراٹم کی کتاب ”ہندوستانی مسلمان“ کا ایک باب ”ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ“: ۱۵۳-۱۸۰

ہو گئی یعنی یہ کہ یہ اسلامی بغاوت تھی۔ (۱)

ایک معاصر مؤرخ لکھتا ہے:

”ایک انگریز کا شیوه یہ ہو گیا تھا کہ ہر مسلمان کو باغی سمجھتا تھا، ہر ایک سے پوچھتا ہندو ہے یا مسلمان؟ جواب میں مسلمان سننے تھی گولی اور دینا۔“ (۲)

پھر پھانسی کا سلسلہ شروع ہوا، عام شاہراہوں، سڑکوں پر پھانسی کے شختنگا دیئے گئے، اور یہ جگہیں انگریزوں کی تفرقی اور ویچی کا مرکز بن گئیں، جہاں آکر وہ پھانسی پانے والوں کے سکنے اور دم توڑنے کے وقت کا لطف یافتے، سکریٹ کا ش لگاتے اور آپس میں باقیں کرتے رہتے، جب پھانسی کا کام پورا ہو جاتا تو اور وہ مظلوم شخص آخری سانس لیتا تو ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے، ان بدنصیبوں میں ہڑے ہڑے ذی وجہت اور اشراف تھے، بعض مسلم محلے اس طرح تھے تھیں کردیئے گئے کہ ایک فرد بھی باقی نہ چاہا۔

ایک معاصر مؤرخ لکھتا ہے:

”عستائیں ہزار اہل اسلام نے پھانسی پائی، سات دن برابر قتل عام رہا، اس کا حساب نہیں، اپنے نزدیک گوئیں تیوریہ کو شد کھا، مٹا دیا، پھول تک کو مارڈا، عورتوں سے جو سلوک کیا یا ان سے باہر ہے جس کے تصور سے ول ول جاتا ہے۔“ (۳)

میں من لکھتا ہے:

”ہمارے فوجی افسروں کے مجرموں کو مارتے پھرتے تھے اور کسی دردو تاسف کے بغیر انہیں پھانسیاں دے رہے تھے، گویا وہ کتنے تھے یا گیدڑا، یا

Lord Roberts, Forty One Years In India P'152(1)

(۲) ۱۸۵۷ء از غلام رسول میر

(۳) قیصر التواریخ جلد دوم، اوز: سید کمال الدین حیدر، ص: ۲۸۳

نہایت ادنیٰ قسم کے کیڑے مکوڑے۔<sup>(۱)</sup>

فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس نے ۲۱ جون کے ۱۸۵۴ء کا پیغمبر اکرم کا یک خط میں لکھا:

”مزائے موت کی سب سے زیادہ موثر صورت یہ ہے کہ مجرم کو توبے سے اڑا دیا جائے، یہ بڑا ہی خوفناک نظارہ ہوتا ہے، لیکن موجودہ وقت ہم احتیاط پر کار بند نہیں ہو سکتے، ہمارا مقصد ان پر معاش مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ خدا کی مدد سے انگریز اپ بھی ہندوستان کے مالک رہیں گے۔<sup>(۲)</sup>

ان سفرا کا نہ مظالم اور قتل عام کے بعد وسر اقدم یہ تھا کہ مسلمانوں پر معاش کے دروازے بند کئے جائیں، ان کے اوپر اور چاند ادول کو ضبط کیا جائے، جن سے ان کے مدارس اور ادارے چلتے ہیں، ایسے مدارس کھولے جائیں اور ایسا تعلیمی نظام قائم کیا جائے جس سے مسلمان فائدہ شاہینگیں، اسی کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کی متعدد جلیل القدر ہستیوں کو جس دوام پر عبور دیا گئے شور کی سزا اور کراٹھمان روشن کر دیا گیا،<sup>(۳)</sup> جن میں سے کئی حضرات نے وہیں وفات پائی۔

یہ حالات و حقائق تھے جنہوں نے اہل حیمت مسلمانوں اور خاص طور پر ان علماً نے ربانی اور سلطین ایمانی کے (خلص دینی حیمت، انسانی غیرت اور حب الوطنی کے جذبہ سے) دلوں کو زخمی کر دیا، ان میں سرفہرست حضرت سید احمد شہیدؒ کی جماعت قدسیہ کے باقی ماندہ افراد، مسلک ولی اللہی کے حامل، اور وہ عالی نظر علماء تھے جو انگریزی حکومت اور اقتدار کو اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا حریف، مادی ولادتی تحریک کا علم بردار، پورے مشرق والیشیا کی عزت کو خاک میں ملانے والا، اور

(۱) میلن سن، جلد دوم: ۷۷۱ (۲) Edward Thompson, The Other Side Of the Medall. P.40 (1926)

(۳) مثلاً: مولانا ناجی ہلی صاحب صادق پوری، مولانا محمد جعفر تھاںیری، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا مفتی عبایت احمد کا کوروی وغیرہ

دنیا کی تہذیب و سیاست کو ایسا رخ دینے والا سمجھتے تھے جس میں روحانیات و اخلاقیات پلکہ انسانی قدروں کے بھی پسند اور باتی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔

واراعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ نے اس سلسلہ کو آگے بڑھایا اور اس کی قیادت کی، ہندوستان کے اس حصہ کو ہم اسی جگہ چھوڑتے ہوئے اب خلافت اسلامیہ، سلطنت عثمانیہ اور بلا دعربیہ کی طرف آتے ہیں۔

### خلافت اسلامیہ اور سلطنت عثمانیہ

مغربی طاقتوں نے خلافت اسلامیہ اور سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھا کہ وہ ایک طرف اسلام کی پاسبان، مسلمانوں کی عزت و عظمت کا نشان، حجاء مقدس، جزیرہ العرب اور ملتات مقدسہ کی ایمن اور ان کی حفاظت کا حصار اور مسلمانوں کی سیاسی طاقت، وحدت، خود اعتمادی و خود شناختی کی ضامن و محافظ ہے، وہ سری طرف وہ یورپ کے سینہ پر ایک کیل ہے جس نے اس کو صدیوں سے بے چین کر رکھا ہے اس احساس میں برطانیہ جس نے چھٹی صدی ہجری میں اور بارہویں صدی عیسوی میں جنگ صلیبی میں بھی قائدانہ کروادا کیا تھا اور "شیروں" رچو نے اس کی نمائندگی کی تھی پیش پیش تھا، اسی کی تحریک اور اشارہ سے باتان کی بنگ کا طویل سلسلہ شروع ہوا، جس کا مقصد یورپ میں ترکی مقبوضات اور مستعمرات کو آزاد کرنا اور ترکی سلطنت کو کمزور اور محدود سے محدود کرونا تھا، اسی سلسلہ کا ایک اہم حصہ شریف مکہ (شریف حسین) کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنا اور ان کو خلافت کے منصب پر فائز کرنے کا وعدہ تھا، ۱۹۱۲ء میں جب جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو برطانیہ کے نمائندے اور مصر کے امور کے ذمہ دار لارڈ پکھر نے شریف حسین کو ان کے صاحبزادہ شاہ عبداللہ اور دوسرے بالآخر لوگوں کے ذریعہ اتحادیوں کا ساتھ دینے اور خلیفہ عثمانی کے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور ان کو منصب خلافت پر فائز ہونے اور حجاز کا مطلق العنوان حاکم بنتے کے بزر

باغ دکھا کر اور موکد و خدوں اور تحریری و ستاویزیوں کے ذریعہ اس اقدام پر آمادہ کر لیا، جو مسلمانوں کی پچھلی تاریخ میں عرصہ دراز تک ایک بدنداخ اور ایک شرمناک واقعہ کے طور پر ذکر کیا جاتا رہے گا، ۲۳ اگست ۱۹۱۵ء سے ۱۸ فروری ۱۹۱۷ء تک حکومت برطانیہ کے موافق نمائندوں اور شریف کے کے درمیان خطوط اور رسائل کا تبادلہ ہوتا رہا، اور ان کو یقینی دلایا جاتا رہا کہ ان کو اس اقدام کا پورا اصلہ اور انعام ملے گا، لیکن جنگ عظیم کے خاتمه پر ۱۹۱۸ء میں جب روز روشن کی طرح یہ حقیقت سامنے آگئی کہ یہ سب وعدے سیاسی فریب اور نقش برآب تھے، ان کے بلند حوصلہ صاحبزادہ فیصل بن حسین کو شام سے جسے انہوں نے سابقہ وحدوں کی بنا پر اپنے قبضہ میں لے لیا تھا، بیک بیگی و دو گوش لٹکنا پڑا، اور فرانس نے اس ملک کا چارج لیا، اسی طرح لبنان پر فرانس نے اور فلسطین و بیت المقدس پر پھر طانیہ نے اپنا اقتدار قائم کیا تو ان سب معاهدات کی قلعی کھل گئی، جو برطانیہ اور شریف حسین کے درمیان ہوئے تھے۔

اس زمانہ میں جب عرب پورے اخلاص کے ساتھ خلافت عثمانی کے بال مقابل اتحادیوں کے حليف بن کر ترکوں سے لڑ رہے تھے، روں میں کیونسٹ انقلاب آیا، ۱۹۱۶ء میں کیونسٹ حکومت قائم ہو گئی، اس وقت وہ تمام خفیہ معاہدے منظر عام پر آگئے جو قیصری حکومت کے زمانہ میں ہوئے تھے یا جس میں وہ ایک فریق تھے، انہیں معاهدات اور وستاویزیوں میں سائنس بیکو کا وہ معاہدہ تھا جو برطانیہ اور فرانس کے درمیان ۱۹۱۶ء میں ہوا تھا، جس میں فریقین نے جنگ میں فتح حاصل کرنے بعد مشرق وسطی میں سلطنت عثمانیہ کو مردہ آدمی کے ترک کی طرح تقسیم کیا تھا اور اس کے حصے بخیرے کر دیئے تھے، شریف حسین کو ترکوں کے واسطے سے جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے سر میکموہن سے اس کی حقیقت معلوم کی، اگر بیزوں نے اس وقت بھی بیگی کہا کرو وہ اپنے قدیم وحدوں پر قائم ہیں اور وہ عربوں کی آزادی اور عربی وحدت کے اعلان کا بھی عزم کر چکے ہیں، لیکن جلد ہی اس فریب کا پردہ چاک ہو گیا، اور ۲۳ اکتوبر ۱۹۱۸ء

کو بروطانیہ اور فرانس نے سائیکلیں بیکو کے معاہدہ ہی کے مطابق شام و فلسطین و عراق کو تقسیم کر لیا، جس میں شام، صوبہ بیروت، جبل لبنان و سائیکلیا شام کے حصے میں فلسطین و عراق انگریزوں کے حصے میں آئے، اور شریف حسین کو حجاز چھوڑ کر اپنے صاحبزادہ شاہ عبداللہ کے پاس عمان پکر قبرص میں پناہ لئی پڑی، جہاں انہوں نے غریب الوطنی اور کس پھر سی کی حالت میں ۱۹۲۱ء میں جان دی، عرب فاضل محمد جمال نہیں اپنے فاضلانہ مقالہ "انتفاضات العرب القومیہ" شائع شدہ "محلہ اللہجۃ العربیۃ" دمشق (تمبر ۱۹۴۷ء) میں لکھتے ہیں:

"میں شریف حسین سے قبرص میں جوان کی جلوٹنی کی جگہ تھی، جب ۱۹۲۱ء میں ملاٹوروئی کے ایک تھیلہ میں بندھے ہوئے ان معاہدات کو انہوں نے مجھے دکھایا جب میں نے ان سے ان کی یادداشتوں کے ایک سلسلہ میں ترتیب دینے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا: اُتر کہا  
علی برکات الله۔" (۱)

راقم سطور جب ۱۹۵۰ء میں بیت المقدس حاضر ہوا تو مسجد قصی کی ایک حاضری کے موقع پر ایک معمز بزرگ سے ملاقات ہوئی، جو مقنی سید ایم اس سینی صاحب مر جنم کے رفقی اور معمدرہ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ مقنی صاحب کی ہر کابی میں شریف حسین کی عیادت کے لیے عمان گیا ہمیں دیکھ کر شریف مکہ نے کہا کہ مجھے بخداو، انہوں نے شاہ عبداللہ کو خطاب کر کے کہا:

"یا عبد اللہ اعتبر، اذکر، انتعظ"

(شاہ عبداللہ اجبرت حاصل کرو، ہوش کی آنکھیں کھولو، سبق اور یہ انگریز کی کئی نہیں ہیں)

شاہ عبداللہ نے کہا کہ آرام فرمائیے، آرام فرمائیے، اور ان کو لٹا دیا۔

## انقلاب انگلیس تبدیلیاں

ترکی کے حصے بزرے کرنے اور بلا و حریبی اور جزیرہ العرب پر اپنایا سی اثر و نفوذ قائم کرنے سے زیادہ خطرناک وہ دور رہا، انقلاب انگلیس اور مخصوص فیصلہ اور تبدیلیاں تھیں جو برطانیہ نے ترکی کی فی قائم ہونے والی سلطنت سے (جس کی قیادت مصطفیٰ کمال پاشا کر رہے تھے) کرائیں، اور جنہوں نے ترکی کو خلافت اسلامی کا امین و محافظ، ایک پر جوش، جال ثار، حامی اسلام، سر بلکف مجاہد اور جزیرہ العرب اور مقامات مقدسہ کا متوالی بننے کے بجائے ایک لا دینی، آزاد، مشرقی طرز کی سیکولر سلطنت بننے میں تبدیل کر دیا، مارچ ۱۹۲۲ء کی تاریخ تھی جب قسطنطینیہ کی مجلس وطنی نے الغاء خلافت کا فیصلہ کیا، یہ فیصلہ مشرقی طاقتوں، بالخصوص برطانیہ کے اشارہ پر لکھا اصرار سے عمل میں آیا، "تاریخ الدوّلة العثمانیة" کا فاصل مصنف ڈاکٹر علی حسون لکھتا ہے:

"الگستان نے اس اعلان کے فوراً بعد ترکی کو بھیت ایک آزاد سلطنت کے تسلیم کیا اور اس کی فوجیں ترکی کے حدود سے باہر نکل آئیں، برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے مجلس عموم ایس کا رروائی پر احتجاج کیا، اس کا جواب کرزن نے ان الفاظ میں دیا کہ:

"مسئلہ یہ ہے کہ ترکی کا ایسا زوال عمل میں آگیا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا عروج نہیں ہو گا، اس لیے کہ ہم نے اس کی روحانی و معنوی طاقت (خلافت اسلامی) کو ختم کر دیا ہے"۔ (۱)

اس کے ساتھ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ لوزان کا انفرس میں برطانوی وفد کے صدر کرزن نے ترکی کو تسلیم کرنے کے لیے چار شرطیں رکھی تھیں، ۱۔ خلافت اسلامیہ کا مکمل خاتمه، ۲۔ خلیقۃ المسلمین کی جلاوطنی، ۳۔ ان کے مال و جانداروں کی ضبطی

(۱) تاریخ الدوّلة العثمانیة، ص: ۲۷۳، مطبوعہ مکتبۃ اسلامی، دمشق بیروت

۲۔ حکومت کے لا دینی (سیکولر) ہونے کا اعلان، جس کو اگر چہ ترکی و فد نے اس وقت مختور نہیں کیا، لیکن کمال اتنا ترک کی کوششوں سے بالآخر پارلیمنٹ نے اس کو منظور کیا اور مغربی طاقتوں کا جس میں برطانیہ بیش پیش تھا وہ خواب پورا ہوا جو عرصہ سے دیکھ رہی تھی۔

### تاریخی المیہ

یہہ تاریخی سانحہ اور المیہ تھا جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ان میں سب سے زیادہ علماء کے طبقہ کو اور ان میں بھی اس جماعت کو جس کے دل میں حیثیت اسلامی کا دریا جو شمارہ تھا اور جس کو اپنے اسلاف سے عزیمت و جہاد، حب فی اللہ اور بخش فی اللہ کی دولت و رشیش میں لی تھی، بے چین اور مفطر بنا دیا اور مغربی طاقتوں بالخصوص برطانیہ کے خلاف ایک ایسی نفرت، پیزاری پیدا کروی جس کی نظیر برطانیہ کے دوسرے مقبوضہ ممالک میں دیکھنے میں نہیں آئی، ان کی اس حیثیت اسلامی نے تحریک خلافت کی شکل میں وہ عظیم تحریک پیدا کی جس کی دوسرے اسلامی ملکوں میں نظر نہیں ملتی، طبقہ علماء میں اس کے ثماں ایسا ترین قائد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا قیام الدین عبدالباری لکھنؤی، مولانا مسیم الدین اجیمری، مولانا حسین احمد مدفی، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا ابوالحسن محمد سجاد بہاری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا سید محمد داؤد غزنوی وغیرہ، اور طبقہ علماء کے باہر رہیں الاحرار مولانا محمد علی، مولانا محمد شوکت علی، مولانا حضرت موبانی، مولانا ظفر علی خاں، حاذق الملک حکیم اجمیل خاں اور اکثر انصاری وغیرہ تھے۔

۱۹۱۴ء میں حضرت شیخ الہند اور آپ کے رفقاء کو جن میں مولانا سید حسین احمد صاحب مدفی، مولوی عزیز گل صاحب، حکیم مولوی نصرت حسین صاحب تھے،

چجازی حکام نے گرفتار کر کے انگریزی حکومت کے حوالہ کر دیا جس نے انہیں پہلے مص  
پھر مالٹا میں اسیر و نظر بند رکھا، یہ حضرات وہاں تین سال دو ماہ رہ کر فروری ۱۹۲۵ء میں  
رہا ہو کے جون ۱۹۲۴ء میں ہندوستان آئے، لیکن حکیم نصرت حسین صاحب کوڑوی کا  
وہیں انتقال ہوا۔<sup>(۱)</sup>

### تحریک خلافت کا مظہر اتم

تحریک خلافت نے ہندوستان میں جو جوش ایمانی، غیرت اسلامی، حیثیت دینی،  
بلند رکھا ہی، اور مصائب و محن پر صبر و استقامت کی شان پیدا کر دی تھی، اس کو ”حیثیت“ و  
”عزمیت“ کے الفاظ سے بہتر الفاظ (بشرطیہ ان کے صحیح وزن اور درج حرارت کو سمجھا  
جائے) نہیں مل سکتے، اور اس کا مظہر اتم اور نمونہ کامل حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی  
تھے، جن کی انگریز و شنی اور حیثیت دینی فکری و اعتقادی حدود سے آگے بڑھ کر قلبی و  
جنبدیاتی نفرت و خداوت اور قال سے آگے بڑھ کر حال میں تبدیل ہو گئی،<sup>(۲)</sup> اس موقع  
پر مولانا کے ایک مکتب کا اقتباس پیش کیا جا رہا ہے جس سے ان کی دینی حیثیت، انگریز  
و شنی اور حب الوطنی کا کسی قدر اندازہ ہوتا ہے اور اس کے اسباب پر روشنی پڑتی ہے،  
اس کی مزید تفصیل اور شرح و سلط و لفظ ”لقدش حیات“ میں ملے گا:

”میرے محترم دوست! آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ تمام غیر  
اسلامی ٹھاہب اور ان کے ماننے والے اسلام اور مسلمانوں کے  
وشن ہیں، مگر سب وشن ایک طرح کے نہیں ہوتے، کوئی بڑا ہے

(۱) اس وقت ان کی عمر ۲۹ سال تھی۔

(۲) اس کا کسی قدر اندازہ مولانا کی مجلس میں پیشے والوں، اور جگہ کی نماز میں قوت نازلہ سننے  
والوں کو ووکٹا تھا کہ جب مولانا و شمن اسلام کے لیے ”اللهم دمر دیارہم و نکس اعلامہم  
و زلزل اقدامہم و فل حدہم و اہرم جندهم، اللهم خذہم أخذ عزیز مقندر“ کے الفاظ  
ادا کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ محراب میں اس کے اثر سے شکاف پڑ جائیں گے۔

کوئی چھوٹا ہے، ہر دشمن سے اس کے درجہ کے موافق مقابلہ کرنا لازم ہوگا، جب سے اسلام نے ظہور کیا ہے انگریز کے مبارکہ اسلام اور مسلمانوں کو کسی قوم نے نہیں تھمان نہیں پہنچایا، انگریز دوسویں سے زیادہ عرصہ سے اسلام کو فا کر رہا ہے اس نے ہندوستان کی اسلامی طاقت کو فنا کیا، بادشاہوں اور نوابوں اور امراء کو قتل کیا، ان کی فوجوں کو برباد کیا، حکومتہائے اسلامیہ کو تھہر و بالا کیا، خزانوں کو لوٹا، اپنے اقتدار کا خزانہ قائم کیا، اپنے قوانین کو چاری کیا، ہندوستان کی تجارت، صنعت و حرف، علم و تہذیب وغیرہ کو برباد کیا، ٹیکسٹوں اور لگانوں وغیرہ کے ذریعہ سے ہر قسم کی مالی لوٹ چاری کر کے اپنے ملک کو خنی اور ہندوستان کو کنگال بنایا، ہندوستانيوں اور بالخصوص مسلمانوں کو انتہائی ذلیل، نادار، بے کار، بے روزگار بنایا، مسلمانوں سے ہندوستان کے دوسرے مدھیوں والوں کو تفتخر کر کے دشمنی کی آگ بھڑکائی، اور ہر جگہ بے ہتھیار اور کمزور کیا، ہندوستان میں اسلامی قوانین کے خلاف شراب اور شہیات کی آزادی، زنا اور پد کاری کی آزادی، الحادو زندقة و ارتداوی کی آزادی، عدالتوں میں خلاف اسلام قانون کا اجراء اور وہاں کے موافق فیصلہ چات جاری کئے، محکمہ قضاء کے خلاف معاهدہ مٹا کر مسلمانوں کے ایشیش قوانین کو ملیا میث کیا وغیرہ وغیرہ، ہندوؤں کو قصد املاک کر ہر جگہ اور ہر شعبہ زندگی میں قوی تر کیا، اور سود و رو سود کو جاری کیا، غرض کہ ہر طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو ہندوستان میں برباد کیا، اور جب کہ مسلمانوں نے اپنے فطری اور شرعی حق آزادی کے لیے چدو جہد

کی تو ان پر اس قدر مظلوم کئے کہ ان کی یاد سے بھی دل تھرا آتا ہے، ۱۸۵۷ء کی تاریخ اور ان سے پہلے کے واقعات دیکھئے، معابدات اور وعدے جو کے ہوئے سے پہلے کیے تھے اور کے ہوئے میں ہوئے، ان کو بار بار توڑتے رہے، غرض کہ ہندوستانی مسلمانوں کے خصوصاً اور تمام ہندوستان کے باشندوں کے ساتھ عموماً وہ شرمناک معاملے کئے کہ وہ ہندوستان جو کبھی جنت نشاں تھا، جہنم نشاں بن گیا، وہ ہندوستان جو کہ دولت و ثروت کا مرکز تھا وہ فقر و فاقہ، افلاس و نگ و سقی کا اڈا ہو گیا، وہ ہندوستان جو کہ علم و حکمت کا سمندر تھا وہ بہالت اور بد دینی کا چیل میدان ہو گیا، وہ قلاش، سکین، فاقہ مست، پے کمال، پے روزگار، گرانی اور پس ماں گی کاشکار ہو گیا، یہ مظلوم تھے ہی جن میں مسلمان سب سے زیادہ بتاہ ہوئے۔<sup>(۱)</sup>

### برطانیہ کی سرپرستی

برطانیہ کی اسلام دشمنی کا دوسرا اور ممالک عربیہ اور مقامات مقدسرہ کو (جن کی وحدت اور آزادی کے وحدہ پر شریف حسین کو خلیفۃ اسلامیین اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف آمادہ کیا تھا) ہمیشہ کے لیے داؤں پر لگادینے کا مخون اقدام، فلسطین میں اسرائیل کی آزاد حکومت کا قیام ہے، جو ۱۹۴۸ء میں خالص برطانیہ کی سرپرستی میں عمل میں آیا اور جو عالم عربی کے جسم میں ایک ناسوری کی تیزیت رکھتا ہے اور جس نے پورے فلسطین خشہ غربیہ اور سینا اور لبنان کو بیرونیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اس سے پڑھ کر اسلام دشمنی اور عربوں کے مفاد کے خلاف اس پچھلے ہمدرم میں کسی مغربی طاقت

(۱) مکتبات اللہ الاسلام، حصہ دوم، ص ۸۱-۸۲-۸۳، مرتبہ مولانا محمد الدین اصلانی

کی طرف سے کوئی منصوبہ یا اقدام وجود میں نہیں آیا۔

### اظہارِ حقیقت

اس مضمون کے آخر میں اس تاریخی حقیقت کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان جیسے عظیم ملک پر سات سو سال پہلے ایک بدیںی قوم کا جس کی تہذیب، پھر، زبان، مذہب اور سیاسی مقاصد سے کوئی میں نہیں کھاتے تھے، حکومت کرنا ایک غیر فطری، غیر عقلی اور غیر اخلاقی صورت حال تھی، جس میں زیادہ دنوں تک باقی رہنے کی صلاحیت نہیں تھی، کسی نہ کسی ملک کی روح اور شیر کا اس کے خلاف بغاوت کرنا اور اس کی حکومت کے جو نئے کو اتنا کر پھیل دینا اور ملک کا آزاد ہو جانا ایک فطری عمل تھا اور زمانہ قریب و بعد میں اس ملک کا آزاد ہونا تقدیرِ الٰہی اور اقوامِ ملل کی تاریخ کا پرانا تجربہ اور بار بار پیش آنے والا واقعہ تھا، اس لیے اس جگ آزادی میں جو اس ملک کے محاب وطن اور باعزت اور پاٹھیر انسانوں نے انیسویں صدی کے آخر ہی میں شروع کروئی تھی، مسلمانوں کا قائدانہ حصہ لینا، اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ طبقہ علماء کا پیش پیش ہونا، نہ صرف حبِ الوفی کا تقاضا اور اس ملک کا (جس میں انہوں نے صدیوں تک امن و امان اور سکون و اطمینان کے ساتھ آزاد ہی زندگی گزاری تھی اور دین و علوم دینیہ کی خدمت کی تھی) اخلاقی و دینی فرض تھا، بلکہ دینی بصیرت، بالغ نظری، حقیقت پسندی، اور انجام بینی کا بھی تقاضا تھا، اس لیے کہ جس ملک کو اجنبی طاقت سے آزاد کرنے میں الہ دین کا قائدانہ حصہ نہیں ہوتا، اس ملک کے آزاد ہونے کے بعد ان کو اس ملک میں اپنے ملی شخص کے بنا اور اس سر زمین پر عزت و اعتماد کے ساتھ رہنے کا مطالبہ کرنے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کا موقع نہیں رہتا، اور وہ اس ملک کی چدید تغیر و تشكیل میں آزادانہ و مساویانہ حصہ لینے کے مردی اور طلبگار نہیں بن سکتے، کہ الغنم بالغرم (نقسانِ اٹھانے کے پتھر فا نکہ حاصل کرنے کا استحقاق ہوتا ہے) کا اصول ہر زمانہ میں تسلیم کیا گیا ہے۔

شیخ الاسلام مولانا مدنی، ان کی جماعت (جمعیۃ العلماء) ان کے رفقاء کار، اور پنگ آزادی میں حصہ لینے والے اور اس کے سلسلہ میں قید و بند کی محبیتیں اٹھانے والے خالقین کی ناراضگی اور مقاطعہ کا نشانہ بننے والے علماء اور اہل دین کا (جن کے سرخیل اور پیشوای شیخ الاسلام مولانا مدنی تھے) ملت اسلامیہ ہندویہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی قربانیوں، خلوص و بے غرضی، بہت وعزیمت اور صبر و استقامت سے (جو اکثریت کے بڑے سے بڑے قائدین کی قربانیوں سے کم نہیں) ہندوستان کی ملت اسلامی کو اس قابل ہنا کرو کر وہ اس سرز میں پر اعزاز و افتخار کے ساتھ سراو چاکر کے چلے، بڑی سے بڑی سیاسی اور مدنی ایثار و قربانی جماعت سے آنکھیں ملا کر بات کرے، اور اپنے دین و شریعت، اپنی زبان و تہذیب، اپنے عائلی قانون اور ملک کی آئین سازی اور نظام تعلیم میں اپنے شخص اور طی ضروریات کے تحفظ کا (احسان کہتری کے اونٹی شائنبہ کے بغیر) مطالبہ کرے اور اس کے لیے جدوجہد کو چائز ہی نہیں ضروری سمجھے، یہ ملت پر اتنا بڑا احسان ہے جس سے وہ کبھی سبک دوش نہیں ہو سکتی، اور تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، ان دینی قائدین اور مجاہدین آزادی کو پنگ دال یا اعلان کرنے کا حق ہے کہ

گھشتہ ایم ہر سرخارے بخون دل  
قانون با غائبی صحراء نوشتہ ایم

### امتحان اسلامیہ وورا ہے پر

ہندوستان کی ملت اسلامی ملک کے آزاد ہونے کے ۲۰۰-۳۰۰ سال بعد پھر ایک ایسے دورا ہے پر ٹکنگی ہے جہاں سے ایک راستہ ملت کے اپنے دینی، تہذیبی، لسانی و ثقافتی شخص کے ساتھ باتی رہنمی کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ اپنے ہر قسم کے ملی، دینی و تہذیبی شخص سے محرومی اور تعلیمی پالیسی، لسانی فارمولے، ذرائع ابلاغ، یکساں سول کوڈ Aggressive (Uniform Civil Code) اور جارحانہ احیائیت (Cultural Genocide) کی طرف معنوی نسل کشی (Revivalism)

لے جاتا ہے، اس موقع پر پھر ایسے رہنمایا رہنماؤں کی ضرورت ہے جو حضرت مدینی کی حمیت و عزیزیت کے ساتھ میدان میں آئیں، اور اس طبق کو عرصہ تک کے لیے ان خطرات سے محفوظ کریں۔

آخر میں اس مقالہ کو خود حضرت مدینی کے ایک پسندیدہ شعر پر ختم کرتا ہوں جس کو انہوں نے اپنا اصول زندگی بنا لیا تھا اور جس کا مفاد یہ ہے کہ وہ "شادِ خوبیاں" (خدائے بالا و برتر) اپنی رضا و تقویٰ لیت اور خلق خدامیں اعتماد و قبولیت کا جام "سرکشیدہ" کے بجائے "سربریدہ" کو اور "خود بیٹی و خود پرستی" کے بجائے "ایثار و قربانی" کو اپنا شعار بنانے والے کو اور ان کو عطا فرماتا ہے جو "قما" کے راستے سے "بغا" تک پہنچتے ہیں۔  
یہ شعر مولانا نے اپنے ایک مخلص خادم کو لکھا تھا اور وہ خط ہمارے خاندانی مرقدہ خطوط میں محفوظ ہے۔

نہی دانی کر آں شادِ حکوم نام  
بدستِ سربریدہ می دہدِ جام<sup>(۱)</sup>

(۱) یہ مقالہ دہلی میں متعقد "شیخ الاسلام سمینار" کے لیے لکھا گیا تھا، جس کا مجموعہ اسی خاندان والا شان کے ایک فرد رشید و اکثر رشید الوحدی صاحب نے مرتب کر کے "المجعیۃ بک ذیلہ" کی قسم جان دہلی سے شائع کیا، یہ سمینار ۱۸-۱۹ مارچ ۱۹۸۵ء کو دہلی میں منعقد ہوا تھا۔ (مجموعہ)

## ﴿ باب ششم ﴾

# عظمیم قائد اور عظیم مرشد و مردی

## سب سے نایاب اور مشکل کام

مگر اپنی اس زندگی میں جس چیز کا بار بار تجربہ اور مشاہدہ ہوا ہے یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیاد نایاب اور مشکل کام انسان کا بروقت پہچانتا ہے، ہر شخص اپنے اپنے تجھیل اور تجربہ کے مطابق اپنے زمانہ کے مشاہیر کا ایک نقشہ اور ایک خیالی تصویر تیار کر لیتا ہے اور اس کو مقام دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک عارف کو کہنا پڑتا ہے۔

ہر کے از ٹلن خود شد پار من

وز درون من نہ جست اسرار من

لیکن بعض صورتوں میں انسان کا پہچانتا اور مشکل ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس پر کچھ اس طرح کے جوابات پڑ جاتے ہیں جو عام لوگوں میں معروف ہوں اور جو رواجی ہوں، جن کا اپنا ایک خاص ڈھانچہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں انسان کا پہچانتا اور مشکل ہو جاتا ہے، مثلاً: اگر کوئی شخص اہل دنیا کے لباس میں رہتا ہے تو اندر سے وہ خواہ کچھ بھی ہو لوگ اس کی اصل حقیقت سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتے، ہماری نگاہیں جوابات سے پار نہیں ہونے پاتیں۔

جنگ آزادی کے عظیم قائد اور عظیم دینی رہنما

حضرت مولانا سید حسین احمد مدھیؒ کے نام کے ساتھ کل تک زبانِ مدخلہ العالی

کہنے کی خادی تھی، اور اس وقت ہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کہجھے میں ایک اور آئندی جاپ حائل ہو گیا ہے، یہ ان کی سیاسی حیثیت تھی، جیسا کہ کہا جاتا ہے اور آنکہ بھی کہا، لکھا اور شائع کیا جاتا رہے گا، مولانا جنگ آزادی کے بہت بڑے قائد اور رہنمای تھے، لوگوں کے نزد دیکھ یہ بہت بڑی بات ہو گی اور شاید مولانا کی انتہائی تعریف اور مدح سمجھی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، مولانا کی اصل صورت و حیثیت اس کے پیچھے مستور رہی ہے اور اس جاپ نے بڑے بڑے لوگوں کی لگاؤں سے ان کو اچھل رکھا ہے۔

اصل تو یہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ کون کیا ہے

﴿الَّا يَعْلُمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الظَّيِّفُ الْحَمِيرُ﴾ (الملک: ۱۴)

لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسرا حیثیتوں کے جانے کا تھوڑا بہت موقع ملتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان جوابات کو اٹھائیں اور اس شخص کی اصل صورت اور حیثیت کو سامنے لائیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی اس کا تھوڑا بہت موقع ملا ہے۔

### شخصیت کے کچھ پوشیدہ گوشے

میں اپنے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا کی زندگی کے کچھ پوشیدہ گوشے جن کو مجھے دیکھنے، مجھنے اور جانے کا موقع ملا ہے ان لوگوں تک پہنچاؤں جو مولانا کو اب تک کچھ اور مجھے رہے ہیں، میں اس وقت آپ کو سامنے رکھ کر اپنی اس آواز کو دوڑو دوڑ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔

مولانا اس وقت وہاں ہیں جہاں ہماری درج، ستائش کی ان کو ضرورت نہیں، بلکہ واقعی ہے کہ ان کو اللہ نے دنیا ہی میں اس مقام پر پہنچا دیا تھا جہاں انسان درج و ذم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ میں اس وقت اس لیے کہ رہا ہوں کہ اس کی خود نہیں ضرورت ہے، میں ان کی زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے اور اس کے مفید پہلوؤں کو اپنانا اور ان سے سبق لینا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ جو باشیں میں عرض کروں گا یہ وہ

ہیں جو میرے ذاتی مشاپدہ میں آئیں، ان میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی رنگ آمیزی نہیں ہے، اس لیے کہ ان واقعات کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔

### اخلاص ولہبیت

ان کی زندگی کا سب سے پہلا، ممتاز اور اعلیٰ وصف اخلاص ولہبیت ہے، افسوس یہ ہے کہ الفاظ کثرت استعمال سے اپنی قیمت اور وزن کھو دیتے ہیں، اخلاص بھی انہیں لفظوں میں سے ہے، ہر معمولی دین وار اور فراپاند صوم و صلاؤ آدمی کو ہم مخلص کہہ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک آدمی کی سب سے پہلی تعریف مخلص ہوتی ہے، حالانکہ تاریخ کا مطالعہ تاتا ہے، کہ مخلص ہونا انسان کی آخری اور انتہائی تعریف ہے

**﴿فَلْ إِنْ صَالَتْنِي وَنُشِّكَنِي وَمَنْحِيَّنِي وَمَمَّاتِنِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام: ۱۶۲)**

کے مقام پر پہنچنا آسان نہیں ہے، یہ مقام ثبوت کا پروٹو ہے، میں نے مولانا کی زندگی میں اس جو ہر کو بہت نمایاں دیکھا، ایسا کام جو اخلاص ہی پڑھنی ہوا اور جو عام طور پر محض اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہو، اور جس میں کوئی دنیاوی اور مادی نفع نہ ہو، مثلاً: تماز پڑھنا، اس میں اخلاص کا قائم رکھنا زیادہ مشکل نہیں، اگرچہ یہ بات بھی پورے وثوق سے نہیں کوئی جاسکتی، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسے کاموں میں بھی محض خال اور چند ہی ایک صحیح معنی میں مخلص کہے جانے کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن جو کام اکثر و پیشتر بلکہ تمام تر دنیوی نفع اور فائدہ کے لیے کیے جاتے ہوں، جہاں غیر مخلصین کا مجمع ہو، وہاں اخلاص کا قائم رکھنا بڑا مشکل ہے، تماز اخلاص کے ساتھ پڑھنا آسان ہے، لیکن تجارت، مزدوری، کتابوں کا لکھنا اور شائع کرنا اخلاص کے ساتھ بہت مشکل کام ہے، اور اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے جو ایسے اعمال میں اپنے اخلاص کو قائم رکھتے ہیں

**﴿وَرَجَالٌ لَا تُلِمُّهُمْ بِتَجَارَةٍ وَلَا يَتَّبِعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ (النور: ۳۷)**

مولانا کی عظمت کارا، نہیں تھا کہ وہ کوئی بڑے مقرر تھے، میں آپ کے سامنے صاف کہتا ہوں کہ مولانا کوئی جادو بیان اور شعلہ با مقرر نہیں تھے، بلکہ وہ بقدر ضرورت ہی تقریر کرتے تھے، لوگ مولانا کے سامنے اس لیے نہیں جھکتے تھے کہ وہ کوئی بڑے مصنف تھے، مولانا کا شار ملک کے نامور و ممتاز مصنفوں میں نہیں، ہر شخص ان کے سامنے چھوٹا نظر آتا تھا اس لیے نہیں کہ دنیا میں ان کا جیسا کوئی عالم نہیں، میں اس کے کہنے میں کسی معدودت کی ضرورت نہیں سمجھتا اور وہ اس میں مولانا کی کوئی تتفیص ہے، بہت بڑا عالم ہو جانا کوئی بڑا کمال نہیں، جو ذرا مختنی، ذہن اور فہیم ہو اور اس کو مطالعہ کا موقع ملے ایک بڑا عالم بن سکتا ہے، مولانا کی بڑائی کا راز یہ ہے کہ وہ سرتاپا اخلاص تھے، وہ اپنے اپنے ہر کام میں اور ہر وقت مخلص تھے، ان کا ادنی سے ادنی اور محموں سے محموں اور خیر دینی کام اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا، ان کی ساری سیاسی چد و چہ مخفی "ابتغاء رضوان اللہ" تھی، وہ صرف اس لیے اس میں منہک رہے کہ وہ اس کو رضاۓ الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہ اس سے قرب الہی چاہتے تھے، وہ ان کے لیے "سلوک" بن گیا تھا، یہ ان کے لیے چہا تو اور وہ اس میں شرکت سے مخفی قرب بالجہاد چاہتے تھے، جس نیت سے وہ رات کو تجدید پڑھتے تھے، آپ یقین کریں کہ اسی نیت سے وہ اسلحہ پر تقریر کرتے تھے، وہ وہاں اس نیت کے ساتھ مشغول رہتے تھے جس نیت سے وہ نوافل پڑھتے تھے، جو ثواب ان کو تجدید کی آٹھ یا دس رکعتوں میں ملتا ہوگا، وہ ان کو رات کے کسی جلسے کی شرکت میں ملتا ہوگا، جس طرح مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہوگا اسی نیت سے جیل خانے جاتے رہے ہوں گے، یہ آسان کام نہیں، یہ مقام وہ ہے جو صرف الہ اللہ کو بھی نہیں، کالمین اولیاء اللہ ہی کو حاصل ہو سکتا ہے، ایک مش کے لیے اپنے کو ایسے ماحول میں اللہ کے قریب سمجھنا مشکل ہوتا ہے، چرچا نیک وہاں انہوں نے گھنٹوں، دنوں، ہمینوں اور سالوں اپنے کو اللہ کے ساتھ مشغول رکھا، اس کی علامت یہ ہے کہ ان کو ان کی یہ سیاسی مشغولیت ان کیفیات سے دور نہیں کرتی تھی، جو اس سے علاحدہ ہوتی تھیں،

جس اٹیچ پر وہ ہوتے تھے وہاں اکثر وہ لوگ بھی ہوتے تھے جنہیں نماز کا بالکل خیال بھی نہیں ہوتا تھا اور بعض اوقات اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی تھی، لیکن وہ جملہ سے اٹھ کر کسی مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں اگر نماز ہو جکی ہے، کسی دوسری مسجد میں تشریف لے جاتے، جہاں جماعت ملتی وہاں پڑھتے، کہیں نہ ملتی تو اپنی علاحدہ جماعت کرتے، یہ ایک مثال ہے، اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جو ان کی زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے اخلاص و لہمیت اور اللہ کے ساتھ انتہائی تعلق اور مشغولیت کی دلیل ہیں اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ کہ یہ آسان کام نہیں، یہ ان کی زندگی کا پہلا جو ہر ہے جس نے ان کو وہ پاندی عطا کی جو ان کے سیاسی معاصرین میں کسی نہیں تھی۔

اس اخلاص کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس سیاسی چد و جہد میں شروع سے حصہ لیا اور اس وقت تک حصہ لیتے رہے جب تک اس کی ضرورت تھی، لیکن جب ضرورت پوری ہو گئی اور وقت اور موقع آیا اس محنت کی قیمت وصول کرنے کا، تو انہوں نے ہاتھ ٹھیک کی، ایک وقت ہوتا ہے مزدوری کا، ایک مزہ کا، مزدوری پوری کی، سلسلہ کی اور محنت و مشقت سے کی، لیکن اجرت وہاں کے لیے اخمار بھی جہاں وہ اب ہیں، جب آزادی کا درخت لگایا چار بھاڑا اور اس کی آبیاری کے لیے خون پیش کی ضرورت تھی، وہ پیش پیش تھے، لیکن جب اس درخت کے پھل کھانے کا وقت آیا اس وقت وہ اللہ کا بندہ اتنی دور جا پیٹھا جہاں اس کی ہوا بھی نہ لگ سکے، وہ آزادی سے پہلے بھی ایک مدرس تھے، اب بھی وہی مدرس رہے، پہلے بھی ایک منتظری شناوا پاتے تھے اب بھی وہی پاتے رہے،<sup>(۱)</sup> آزادی کی چد و جہد کے رفیقوں اور ہم سفروں میں وہی ایک شخص تھے جن کا وامن و نیوی متفقہ کے داش اور آلودگی سے پاک رہا اور بلا واسطہ اور بالواسطہ کسی طرح اپنے صاحب اقتدار و پا اختیار رفیقوں کے ممنون نہیں ہوئے۔

(۱) دارالعلوم دیوبند نے ان کی تدریسی خدمات حاصل کیں اور وہ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔

## عالی حوصلگی اور عزیمت

۲۔ مولانا کی زندگی میں دوسرا نہایاں وصف ان کا عزم و عالیٰ محنتی تھی، مسلمانوں میں بالحوم اور طبقہ علماء میں بالخصوص قوت ارادی کی بڑی کمی نظر آتی ہے، وہ ماغی اور چونی حیثیت سے بڑے بڑے ممتاز لوگ ہوں گے اور ہیں لیکن یہ جو ہر نایاب ہے، دینی و علمی حلقہ میں مولانا جس چیز میں ممتاز تھے وہ بلند حوصلگی ہے، جس چیز کو رضاۓ الہی کے لیے ضروری سمجھا اس کو انہوں نے بڑی خوش ولی اور خدہ پیشانی کے ساتھ بھیلا اور برداشت کیا، بلکہ دعوت وی خواہ وہ کیسی ہی تکلیف دے، صبر آزم اور رہست شکن ہو، انہوں نے اس وقت کئی کئی برس جیل کاٹے ہیں جب تسلیم جانا آسان کام نہیں تھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بڑی چیز اور بظاہر زیادہ سخت چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن بعض چھوٹی چھوٹی باتوں سے قدم ڈال گا جاتے ہیں، حکومت سے ٹکر لینا اور اس کی سختیوں اور مظالم کو برداشت کرنا آسان ہے، لیکن بعض گھر بیو معاملات اور گھر بیو تعلقات کے سامنے پاؤں پھسل جاتے ہیں، لیکن مولانا نے ہر چیز کا مقابلہ کیا، انہوں نے کوئی کام اپنی زندگی میں اس لیے چھوڑنا کیا متنیٰ متوی نہیں کیا کہ وہ مشکل ہے، ہم آپ سب چانتے ہیں کہ وہ کثرت سے سفر کرتے تھے، سیاسی وغیر سیاسی، دینی وغیر دینی حلقہ میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے ان کے ہمراہ سفر کئے ہوں، پھر ان سفروں میں لوگوں سے ملناء، باقیں کرنا، تقریبیں کرنا، معمولات کا پورا کرنا، جو لوگ مولانا سے تقریب رہتے ہیں وہ ان کے جو ہر سے کسی قدر را قفل ہیں، لوگوں کی ول جوئی اور بخوبیں کی خوشی کی لیے بڑے بڑے مشکل اور طویل سفر اپنے ذمہ لے لیتے، جگہ جگہ ٹھہر تے اور عزیزوں اور وسنوں کی فرمائیں پوری کرتے، نہ بڑھاپا ان کے لیے رکاوٹ تھا، نہ پیماری، مصروفیت، پھر مختلف بلکہ مقتدا و مشا غل اور ذمہ دار یوں کا جمع کرنا پیش اعلیٰ درجہ کے عزم اور قوت ارادی کے عینکن نہ تھا، مولانا کو وہ عزم اور طبیعت کا استقلال ملا تھا جو ملکوں اور قوموں کی زندگی میں بڑے بڑے تغیرات پیدا کرو رہا ہے، مگر افسوس کہ اس سے پورا فائدہ نہ اٹھایا جاسکا۔

## دینی اشہاک و دینی مصروفیت میں صاحب کرامات شخصیت

۳۔ دینی اشہاک اور دینی مصروفیت، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ان سے کچھ قریب رہے ہیں، ایسا مسلسل اور انتہک کام کرنے والا اور نہ اکتنے اور نہ گھبرانے والا انسان کم نظر آیا ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ جو مولانا کی مصروفیت کو دیکھتے تھے وہ گھبراجاتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے کہ مولانا اتنا کام کیسے کرتے ہیں، یکروں آدمیوں سے ملتا، درجنوں مہمانوں کی خاطر مدارات کرنا، ایک ایک سے اس کے مطلب اور ضرورت کی بات کرنا، حتیٰ کہ تعویذ چاہئے والوں کو تعویذ دینا، پھر اسی میں حدیث کے درس کی تیاری کرنا اور کئی کئی وقت، فتح شام، ظہر بعد، عشاء بعد دیرات تک درس دینا، اور درس بھی ایسا عالملاش و فاضلانہ جوان کے منصب کے مطابق تھا، پھر خطوط کا جواب دینا، جب تک خود لکھنے کے قابل رہے خود ہی جواب لکھتے رہے، آخر میں دوسروں سے لکھوانے لگے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے خطوط اپنے قلم سے لکھتے، میرا خیال ہے کہ دینی شخصیتوں میں سے کسی کے پاس آتی ڈاک نہ آتی ہوگی جتنی مولانا کے پاس آتی تھی، اس لیے کہ مولانا کی حیثیت سیاسی لیڈر کی بھی تھی، شیخ طریقت کی بھی تھی،<sup>(۱)</sup> اور ایک عالم دین کی بھی تھی، مہمانوں کا کرام کرنا، ایک ایک شخص کی طرف خصوصی توجہ، اس کی ضرورت پوری کرنا اور وہ بھی پوری بناشت، انبساط و اشراح کے ساتھ، کرامت نہیں تو اور کیا ہے، واقعہ یہ ہے دینی امور میں اتنا اشہاک و سرگرمی، یا تو میں نے مولانا الیاس صاحب میں دیکھی<sup>(۲)</sup> یا مولانا میں، مولانا الیاس میں اپنے رنگ میں اور مولانا میں اپنے رنگ میں، رات کو دن بجے کہیں سفر سے واپس آئے، اسی وقت طبلہ کو اطلاع ہوئی کہ درس ہوگا، کیسی نیند، کہاں کا

(۱) وہ حضرت مولانا شیداحمد گنلوہی (م ۱۳۲۳ھ) کے خلیفہ تھے، جو حضرت حاجی احمد الدین مہماجر کی (م ۱۳۲۱ھ) کے اور وہ میا خی لور محظوظ جہانوی (م ۱۳۵۹ھ) کے تھے، میا خی لور محظوظ جہانوی کو حضرت حاجی عبدالرجمان ولایتی (ش ۱۳۲۶ھ) سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔

(۲) حضرت مولانا الیاس کاندھلوی، بانی جماعت تبلیغ (م ۱۳۲۳ھ، ۱۹۰۵ء)

مکان، پورے نشاط کے ساتھ درس دیا، اسی میں طلبہ کے سوالات کے جوابات اور وہ بھی غیر متعلق سوالات کے جوابات..... آپ تعجب سے سینیں گے کہ حج کے سفر سے واپس آئے ہیں جس سفر کے بعد ہمیں لوگ تھکن اتارتے ہیں، اور کس طرح آئے ہیں کہ راستہ میں ہر بڑے اشتہن پر متعلقین و محیین سے مصالحہ کرتے، مزانج پوچھتے، ملاقات کرتے آئے ہیں، آتے ہی حکم ہوا کہ سبق ہوگا، تمايیز سیاسی لیدروں میں یہ واقعہ مل سکتا ہے کہ مشاہیر عصر میں؟ بغیر انہما تعلق من اللہ کے یہ ممکن نہیں، یہ ہیں وہ کرامتیں جو بڑی بڑی حسی کرامتوں سے بد رجہ بالند ہیں۔

### نسخہ آدمیت

مولانا کا چوتھا وصف ان کی آدمیت اور انسانیت ہے، آدمیت ایک خاص لفظ ہے اور خاص معنی میں بولا جاتا ہے، محتوی بات نہیں  
اع آدمی کو بھی میر نہیں انسان ہونا

حضرت مرااظہ جان جاناں جب کسی کی بڑی تعریف کرتے تو فرماتے ”ونسخہ آدمیت“ ہے، ایک شخص کی وفات ہوئی تو فرمایا: ”مردند آدمیت بجا ک بردند“ آج مولانا کے بارے میں بھی یہی جملہ بجا طور پر دہرایا جا سکتا ہے، مولانا کی اس صفت و خصوصیت کا اندازہ ان کے مکام اخلاق سے ہوتا ہے، دوسروں کو حقی کہ معاندین و مخالفین تک کو نقع پہنچانے کی کوشش کرتے، خود تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی فکر کر رہے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی مہمان تک ماں دہ کہیں سے آیا ہوارات کو سورہ ہے اور مولانا اس کے پیر دبار ہے ہیں، مہمان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ پیر دبانے والے مولانا ہو سکتے ہیں اور یہی نہیں جنہوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائیں، مولانا نے ان کے ساتھ سلوک و احسان کیا اور یہی شفعت رسانی اور خدمت کی فکر میں رہتے اور جب بھی جس طرح بھی موقع ملا ہے اس کو آرام و نقع پہنچایا ہے، دوسروں سے اگر اس کو کام پڑا ہے تو سفارش کی ہے، خود جا سکے تو جا کر کی

ہے، پیغام کے ذریعہ سے ممکن ہوا تو پیغام بھیجا ہے، جس کے جیسے حقوق ہوتے اور جس کا جیسا مرتبہ ہوا اور جس کو جیسی ضرورت ہوئی اسی کے شایان شان پورا کیا ہے، براہ راست ان مخالفین کو ضرورت پڑی تو ان کی ضرورت پوری کی اور اگر ان کے عزیزوں میں سے کسی کو ضرورت ہوئی ہے تو ان کی کاربرادی کی اور ان کے واسطے سے اپنے ان معاندین کی راحت رسانی کی، انہوں نے اپنے مخالفین و معاندین کو معاف بھی کیا، ان کے لیے دعا میں بھی کرتے تھے، ان کا عمل و تھاب جو کسی عارف نے کہا ہے۔

بہر کہ مارا یار نہ یود ایزد او را یار باد  
ہر کہ مارا رنج داده راحش بسیار باد  
ہر کہ در راه صنم خار نهد او دشمنی  
ہر گلے کو باع عرش بحقہنگ گزار باد

### ”و سخت افلاک میں نکیر مسلسل“

ہماری آپ کی پرستی تھی کہ ہم نے جانا تھاں کہ وہ کیسے بالٹی مراتب پر فائز تھے، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں، جو اس کو چھ سے واقف ہوں، اور جو اس کا احساس رکھتے ہوں، وقت کے عارفین والل نظر کی زبان سے میں نے ان کے لیے بڑے بلند کلمات سنے ہیں،<sup>(۱)</sup> اور ان سب کو ان کی عظمت و پہنچی کا مترغف اور ان کی مدح و توصیف میں رطب اللسان پایا ہے، مولانا اپنے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال کے ان اشعار کا کامل ثبوت و مصدق تھے۔

سترویں مارا خیر او را نظر  
او درون خانہ ما پیرون در  
ما کلیسا دوست ما مسجد فروش

(۱) خصوصاً حضرت مولانا محمد الیاس کا نزد حلوی، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا نزد حلوی اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری۔

او زدست مصطفیٰ پیانہ نوش  
ما ہمہ عبد فرگ اور عبدہ  
او بکھر درجہان رنگ و بو  
ڈاکٹر صاحب نے کبھی کہا تھا۔  
یا وسعت افلک میں بکھر مسلسل  
یا خاک کی آنکھوں میں تیقی و مناجات  
مولانا کا عمل پہلے مسلک پر تھا، یہ واقعہ ہے کہ وسعت افلک میں مولانا کی  
زندگی بکھر مسلسل تھی۔

### عصمت، انہیاء کے ساتھ خاص ہے

یہ میں کہوں گا کہ مولانا مخصوص نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہ  
ہوتی ہو، ضروری نہیں کہ ان کی تمام سیاسی اور اجتماعی آراء و نظریات میں ان سے  
اتفاق کیا جائے، (ا) لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے کہایا کیا محض  
رضائے الہی اور حیثت دینی میں، ان کے لیے کوئی دینی عمرک یا مصلحت نہ تھی۔

### جنہ پر تشکر اور حمیت دینی

مولانا کا چھٹا بڑا وصف ان کا اپنے بزرگوں، اساتذہ اور شیوخ سے عاشقانہ تعلق  
ہے (۲) واقعہ یہ ہے کہ یہاں کی شخصیت کی تجھی ہے، اور ان کی ساری زندگی اور اس کے اہم  
(۱) مشايخ کبار میں خصوصاً حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (م  
۱۹۸۳ھ) کو حضرت مولانا سید حسین احمد مدفی علیہ الرحمہ سے سیاسی آراء و نظریات میں اختلاف  
تھا، اور دونوں ہی کا اختلاف دین و نلت کے مقادیں تھا۔

(۲) خصوصاً اپنے اسلاف میں امیر المؤمنین حضرت سید احمد شہید اور اساتذہ میں شیخ الہند مولانا محمود  
حسن دیوبندی اور شیوخ میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کے بھی شیخ حضرت مولانا زید احمد گنگوہی سے  
بڑا اہلاس اور عاشقانہ تعلق تھا، مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوں گے کی خود و شست سوانح حیات "نقوش  
حیات" اور مکتوبات جو تین جلدیوں میں "مکتبات شیخ الاسلام" کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔

اور عظیم و افات کا راز یہ ہے، یہ چیز اسکی تھی جو ان کے رگ دپے میں سرایت کر گئی تھی، ان کا تعلق ان کو بعض اسکی چیزوں پر آمادہ کروتا تھا جو ان کے عام اخلاق و صفات کے خلاف ہوتیں، اور بعض دفعہ سمجھ میں نہ آتیں کہ یہ کیسے ہوا، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہو گی کہ مولانا اپنی بڑی سے بڑی توہین اور اذیت برداشت کر سکتے تھے مگر اپنے اکابر و اسلاف اور شیوخ و اساتذہ کی تشقیص اور ان کا اختلاف برداشت نہ کر سکتے تھے، بعض مرتبہ یہ چیز ان کی شدید بیزاری و خالقت کا سبب بن جاتی، آخر میں اپنے اسلاف کی امانت کی خالقت اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے مسلک پر قائم رہنے کا جذبہ بہت شدید ہو گیا تھا اور وہ اس راست سے بال بھر پھٹا گوارانیں کرتے تھے، اسی طرح سے خلاف شریعت فعل کے دیکھنے کا تحفہ نہیں رہا تھا، اور یہ تاثران کے عام اخلاق پر بھی غالب آ گیا تھا۔

### عزم و استقلال اور ثبات و استقامت

مولانا کا ایک بہت بڑا کارنامہ جس کی اہمیت کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے، یہ ہے کہ ۱۹۲۸ء کے ہنگامہ میں اور اس کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے بقاوی قیام کا ایک بڑا ظاہری سبب مولانا ہی کی تھی، یہ وہ وقت تھا کہ سب بڑے بڑے کوہ استقامت جنپیش میں آگئے، سب یہی سمجھتے تھے کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں وہی چار ایسے دور گزرے ہیں جب مسلمانوں کے اور اسلام کے بقا کا سوال آ گیا ہے، ۱۹۲۸ء کا ہنگامہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں اسی توجیہت کا تھا، اصل مسئلہ سہارن پور کے مسلمانوں کا تھا، سارا دار و مار ان پر تھا، یہ اپنی جگہ چھوڑتے تو یوپی کے مسلمانوں کے قدم لغوش میں آ جاتے، اور سہارن پور کے مسلمانوں کا انحصار سارا کا سارا دو ہستیوں (رانے پور، سہارن پور کی بزرگ شخصیت) حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری<sup>(۱)</sup> اور (دارالعلوم

(۱) حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس پیر تقری فرمائی اس وقت ان کے مرثی و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نقید حیات تھے، اس کے چار سال بعد ۱۹۲۷ء تا ۱۹۲۸ء مطابق ۱۴۴۶ھ میں انہوں نے بھی لاہور (پاکستان) میں انتقال فرمایا، رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعة و فقرہ مغفرۃ ثانية

دیوبند کے شیخ الحدیث) حضرت مولانا مدنی پر تھا، (ان کے اس عزم و مقصد میں مظاہر العلوم سہارن پور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریا صاحبؒ براہر کے شریک تھے) اس وقت مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ جمنا کے کنارے ہونا تھا، لیکن یہ اصحاب عزم مجاہد بندے وہاں نجھ رہے، اور انہوں نے گھٹنے میک دیئے، (ایک سہارن پور کے مشہور قصبہ) رائے پور کی نہر کے کنارے میٹھے گیا اور ایک دیوبند میں، آپ کو معلوم ہو گا یہ رائے پور سہارن پور و دیوبند مشرقی پنجاب کے ان اضلاع سے جہاں کشت و خون کا ہنگامہ گرم تھا، متصل ہیں، لیکن یہ اللہ کے بندے پورے پورے عزم و استقلال کے ساتھ چھ رہے اور انہوں نے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ اسلام کو بیہاں رہنا ہے اور رہے گا، انہوں نے کہا: مسلمانوں کا بیہاں سے نکلا صحیح نہیں، اگر تم مشورہ چاہتے ہو تو ہم مشورہ دیتے ہیں اور اگر فتویٰ کی ضرورت ہے تو ہم فتویٰ دینے کو قیارہ ہیں کہ بیہاں سے اس وقت مسلمانوں کا نکلا دارست نہیں۔

### فیوض و برکات کا لاثنا، ہی سلسلہ

اس وقت جو ہندوستان میں اسلام و مسلمان قائم ہیں، یہ انہیں بزرگوں کا احسان ہے، ہندوستان میں اس وقت جو مسجدیں قائم ہیں اور ان میں جو نمازیں پڑھی چارہ ہیں اور پڑھی جاتی رہیں گی یہاں کا طفیل ہے، ہندوستان میں جتنے درسے اور خانقاہیں ہیں اور ان سے جو فیوض و برکات صادر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے انہیں کے رہیں منت ہوں گے، اور اس سب کا ثواب ان کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے گا، اس سلسلہ میں مولانا حسین احمد صاحبؒ نے سارے ملک کا دورہ بھی کیا، ایمان آفرین اور ولہ اگنیز تقریریں کیں، اور اپنے ذاتی اثر و سورخ، اپنی تقریروں اور خود اپنے طرز عمل سے مسلمانوں کو اس ملک میں رہنے، اپنے ملک کو اپنا بھگت اور حالات کا مقابلہ کرنے پر آواہ کیا۔

### می احساسات اور دروس و سوز

یہ بات میں اور واضح کر دوں کہ مولانا کے بارے میں لوگوں کو یہ بڑا مغالطہ ہے

کہ وہ موجودہ حالات سے کلی طور پر مطمئن تھے، قریب کے لوگ جانتے ہیں کہ مولانا نے یہند کے اندر کیسا درود سوز، کیسے اسلامی چذبات اور کسی دینی محیت موجز ان تھی، اور ان کے اندر ورنی احساسات کیا تھے، مسلمانوں کی بدقتی ہے کہ ان کو مولانا کے ان چذبات اور اندر ورنی احساسات اور امت اسلامیہ اور اس کے مسائل کے ساتھ گھرے تعلق اور درود سوز کا اندازہ نہ ہوسکا، اور مولانا کی زندگی کا یہ پہلو جتنا روثن اور معروف ہونا چاہیے تھا روثن اور عام طور پر معروف نہ ہوسکا، آزوی کے بعد جو خلاف توقع حالات و تغیرات اس ملک میں پیش آئے انہوں نے مولانا کی طبیعت کو بہت افسرہ کر دیا تھا، ان کی عمر کا بہترین زمانہ اور ان کی بہترین قوتیں اگر یہی حکومت کا مقابلہ کرنے میں صرف ہو چکی تھیں، اور اس معمر کہ میں وہ کامیاب ہو چکے تھے، اب ان کی شعفی افسردگی اور بے نقطی کا زمانہ تھا۔

### آخری ایام

آخر میں ان کی تقریروں کا موضوع اور دعوت صرف ذکر کی تلقین کرنا، خاتمہ کی فکر کی طرف متوجہ کرنا، تعلق مع اللہ اور یہاں باللہ کو مضبوط سے مضبوط کرنا، دینی شعائر کا احیاء اور سنت نبویہ کی کثرت سے ترویج و اشاعت رہ گئی تھی، انہوں نے اپنے عالی مرتبہ شیوخ و اساتذہ سے تعلق مع اللہ، استقامت علی الشریعت اور باطنی مشقویت کی جو دولت حاصل کی تھی، تمام اسفار و مشافل و تجویم خلاق، درس و تدریس کی مصروفیت، اور آخر آخر میں علالت کی شدت میں بھی وہ اسی میں مشغول تھے، اور روز بروز وہ ہر چیز پر غالب آتی جا رہی تھی، زندگی کے آخری ایام تک نماز کھڑے ہو کر اور باجماعت ادا کی، یہ ناجائز آخری بار ۲۵/ نومبر کو لیجنی وفات سے صرف گیارہ روز پہلے حاضر ہوا، خت تکلیف اور بے حد ضعف تھا، یہ وہی دن تھا جس ڈاکٹر صاحب نے نصیلی معاشرہ کر کے یہ کہا تھا کہ مولانا صرف اپنی قوت ارادی سے زندہ ہیں، اور ہمارا ان اس علالت کے سامنے ناکام ہے، اس روز بھی مولانا نے ظہر کی نماز کھڑے ہو کر اور باہر آ کر جماعت کے ساتھ ادا کی۔

## بشاشت اور خوش مزاجی

مولانا کی خدمت میں جب جب حاضری ہوئی تو پوری بشاشت اور استقلال کے ساتھ گفتگو فرمائی، ایک کتاب کے پیچنے کا ذکر کیا، میں نے عرض کیا: مجھے معلوم ہوتا کہ علاالت وضعف اس درجہ تک پہنچ گیا ہے تو کبھی اس کے پیش کرنے کی جرأت نہ کرتا، فرمایا: کیوں؟ میں نے تو کئی صفات کا مطالعہ کیا، اور نفس کتاب ہی بڑی نعمت ہے، اسی مجلس میں ایک مخلص نے جو باہر سے مٹنے آئے تھے روتے ہوئے کہا کہ دنیا خالی ہوتی جاتی ہے، فرمایا: نہیں، دنیا میں بہت لوگ ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں دوسروں سے کیا تعلق؟ فرمایا: ہمیں تو امت محمدی ﷺ سے تعلق ہے۔

## امت محمدی سے تعلق

مولانا نے امت محمدی کی خدمت میں اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فروگذشت نہیں کیا، انہوں نے اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اور اپنے اسلاف سے جو امانت اور فرمہ داری پائی تھی اس کو پورا کر گئے، ان کوئی ستائش کی تھا اپنے، نہ صدکی پرواہ، نہ درج و توصیف کا انتظار ہے، نہ ناسپاسی اور ناشاکی کا گلہ، وہ مسلمانوں کو خطاب کر کے کہہ سکتے ہیں۔

نقیرانہ آئے صدا کرچے

میاں خوش رہو ہم دعا کرچے

جو تھے بن نہ جیسے کو کہتے تھے ہم

سو اس مجدد کو ہم وفا کرچے<sup>(۱)</sup>

(۱) یہ مخصوص اصلاح و خطاب تعریت ہے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد دہلوی کے ساتھ ارتتاح سے مناشر ہو کر مسجد وار العلوم بندوہ العلماء لکھنؤ میں طلبہ وار العلوم کے سامنے حضرت مولانا قدس سرہ نے کیا تھا، جسے "القرآن،" لکھنؤ میں حضرت مولانا محمد منظور تھامی رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کیا تھا، بعد میں حضرت مولانا سید محمد رائع سنی بندوہ مظلہ کے مقدمہ کے ساتھ رسالہ کی کلی میں مجلس تحقیقات و تحریرات اسلام، لکھنؤ نے شائع کیا تھا۔) (محفوظ)

## بَابِ هَفْتٍ

# معاصر علماء و مشائخ کا تعلق، عقیدت و احترام اور ممتاز اصحاب علم و فضل کا تعلق بیعت واردات

## حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ

مولانا عبدالباری ندوی اور مولانا عبدالمajed دریابادی دلوں (حکیم الامت) حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی خدمت میں) گئے تو حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ آپ حضرات کو زیادہ مناسبت مولانا سید حسین احمد مدینی سے ہے، آپ ان سے بیعت ہو جائیں، ویسے خدمت کو میں حاضر ہوں (۱)

(۱) ماخوذ از: تجزیی تقریر، بر وفات مولانا عبدالباری ندوی، مسجد دارالعلوم ندوہ العلماء، تحریر حیات، شمارہ نمبر ۱۹/۲۵ فروری ۱۹۷۸ء)

چنان تک علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، ان کو کہی مناسبت پہلے حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی کی طرف زیادہ تھی، اور ان سے زیادہ عقیدت و محبت محسوس ہوتی تھی، جناب سید صاحب الدین عبدالرحمن صاحب نے معارف سلیمان نمبر (۱۹۵۵ء) میں استاذی احترم مولانا سید سلیمان ندوی کے اخلاق و سیرت کے کچھ نمونے کے عنوان سے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ:

”مولانا سید حسین احمد مدینی سے بھی بڑی عقیدت رکھتے تھے، جب ان میں تصور و سلوک کا ذوق پیدا ہوا تو پہلے مولانا حسین احمدی کی جانب ان کا میلان ہوا، اور ان ہی سے بیعت کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ایک روز خواب میں دیکھا کہ ایک پنٹ پر ..... (باقی اگلے صفحہ پر)

## مولانا شبیر احمد عثمانی

میں دیوبند ۱۹۳۱ء۔ ۱۳۵۰ھ میں حاضر ہوا، اور مولانا مدنی رحمة اللہ علیہ کے درس حدیث میں شرکت کی سعادت حاصل کی، دیوبند کے ایک سفر کے موقع پر مقنی تینیں ارجمند عثمانی صاحب کے محترم مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی تشریف رکھتے تھے، مولانا مدنی کے دولت کردہ پرانے سے نیاز حاصل ہوا، پھر کئی بار دولت خانہ پر بھی حاضر ہوا۔ (۱)

## مولانا ابوالحسن محمد سجاد بہاری

مجھے دارالعلوم دیوبند میں مولانا سید حسین احمد صاحب مدفنی کے دولت کردہ پر ۱۹۳۱ء/۱۳۵۰ھ میں چہل بار مولانا ابوالحسن سجاد صاحب بہاری کی زیارت اور بار بار ان کی مجلسوں اور صحبتوں میں شرکت اور سکھائی کی سعادت حاصل ہوئی، میں نے مولانا مدنی کو کسی کائن سے زیادہ احترام کرتے نہیں دیکھا، یہ میری تو عمری اور طالب (پھٹلے صفحہ کا حاشیہ) حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تشریف فرمائیں، اور اسی کے پاس ایک دوسرے پلٹ پر وہ خود حضرت مولانا حسین احمد صاحب کے ساتھی تھے ہیں، لیکا ایک مولانا حسین احمد اپنی جگہ سے اٹھے اور سید صاحب کا ہاتھ پکڑ کر مولانا اشرف علی کے سامنے پیش کر کے فرمایا: ان کو میری طرف سے قبول فرمائیں، اسی خواب کے بعد وہ مولانا تھانوی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔

حضرت تھانوی اور حضرت مدفنی کے ایک دوسرے کے پاس وظاہ اور ایک دوسرے سے تعلق و جمیت اور ایک دوسرے کے الٰہی محبت و قیدیت کے خاطر و سرپرستی و تربیت کا معاملہ ہے کیا ان تینوں علیل القدر عالموں کو اپنے دامن تربیت میں لے کر فائز المرام کیا، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی اور حضرت مولانا عبدالباری ندوی کو اجازت بیعت سے بھی سرفراز کیا، اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے متعلق قوشاعار کہے جس کا ایک بندپ ہے کہ۔

(محبود)

اسلیمان گیر اخلاص عمل وال تو ندوی رامنژہ اوزفل

(۱) پرانے چارش، جلد سوم، ص: ۱۳۲-۱۳۱

علی کا زمانہ تھا، اس لیے میں ان کے علمی مقام کو سمجھنیں سکتا تھا، پھر جب خوش قسمتی سے ان کا مولانا مدنی کی رفاقت میں دو تین بیتے برادر معظم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب کے مکان پر لکھنؤ میں درج صحابہ کی تحریک کے سلسلہ میں ۱۹۲۴ء میں قیام رہا تو ان نے ان کا درزیادہ قریب سے دیکھا اور علم و شعور کی اس منزل میں دیکھا جب مطالعہ و تحریک پڑھا گے بڑھ چکا تھا۔ (۱)

### مولانا احمد علی لاہوری

حضرت مولانا احمد علی لاہوری جہاں اللہ دنیا اور اہل دولت کے سامنے بڑے خود دار اور غیور واقع ہوئے تھے، اہل دین اور خصوصیت کے ساتھ ان حضرات کے سامنے جن کو اپنے مشائخ اور اکابر کی صفائح میں شمار کرتے تھے، غایت درجہ متواضع اور منکسر المزاج تھے، علمائے حق سے بہت جھگک کر اور فروتنی سے ملتے تھے اور ان کی نہایت تقطیم کرتے تھے، دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مولانا اپنے کو ان کے سامنے ایک معمولی طالب علم سے زیادہ نہیں سمجھتے، معاصر علماء و مشائخ میں سے ان کو دو شخصیتوں سے بے حد عقیدت تھی، اور وہ ان کے ساتھ اپنے مشائخ کا ساماعت کرتے تھے، ایک مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور دوسرے مولانا عبد القادر راستے پوری۔ (۲)

### مولانا ابوالکلام آزاد

مولانا ایک مرتبہ حکومت یونیورسٹی کی دعوت اور سینیٹری نیکری کی وزارت تعلیم کے زمانہ میں عربی مدارس کے نصاب کی ترقی ترتیب و ترقی کی تجویز کے موقع پر تشریف لائے ہوئے تھے، پیر دوری ۱۹۲۴ء کی بات ہے، اس موقع پر انہوں نے یونیورسٹی کے ایک بالائی ہال میں مدارس عربیہ کے ذمہ داروں اور علماء و فضلاء کے سامنے نصاب درس کے ارتقاء اور اس کے عناصر ترقی پر ایک فاضلانہ تقریر فرمائی جس سے اندازہ ہوتا تھا

(۱) پرانے چاراغ، حصہ سوم، ص: ۱۳۰ (۲) پرانے چاراغ، حصہ اول، ص: ۷۲، طبع پدرید

کہ مولانا کے سیاسی مشائیں نے ان کو علم کے اس قائلہ سے پھر نہیں دیا ہے، جس کے وہ اواں عمر میں ہم سفر رہے، ان کے سامنے ایک محشری یادداشت تھی، جس میں انہوں نے دہلی سے لکھنؤ تک کے ہوائی سفر میں کچھ پوائنٹس لکھ لیے تھے، اس موقع پر مولانا حسین احمد مدینی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا قاری محمد طیب صاحب اور دوسرے علمائے فرقگی محل واساتذہ مدارس موجود تھے، ان میں سب کو مولانا کا احترام اور ان کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھا۔<sup>(۱)</sup>

.....جب مولانا حسین احمد مدینی کی دعوت پر دہلی اس کے لیے گیاتا کہ وہ مولانا کو میری موجودگی میں والد صاحب کی کتاب "نزہۃ الخواطر" کی طرف توجہ دلا گیں، جس کی چار پانچ جلدیں دائرة المعارف العثمانیہ حیدر آباد نے شائع کی تھیں، لیکن پولیس ایکشن کے بعد اس کا سلسلہ روک گیا تھا، یہ ملاقات جمیعت العلماء کی ورکنگ کمیٹی کے ایک جلسہ میں ہوئی،<sup>(۲)</sup> جوگلی قاسم خان میں ہو رہا تھا، مولانا آزاد شریف لائے تو مولانا مدینی نے میر اتعارف کرایا، اور نزہۃ الخواطر کا ذکر کیا، مولانا نے اپنی واقفیت اور وجہی کا اظہار کیا، اور فرمایا: اس کتاب کو ضرور چھپنا چاہیے، میں نے عرض کیا کہ کیا یاد دہانی کی ضرورت ہو گی؟ تو فرمایا: نہیں، چنانچہ ایسے ہی ہوا، دائرة سے اس کے بقیہ حصے طلب کئے گئے، اور پوری کتاب چھپ کر شائع ہوئی۔<sup>(۳)</sup>

## مولانا محمد الیاس<sup>ؒ</sup> اور ان کی دینی و عوتوں

۹/۹/۱۹۴۰ءی قعدہ ۲۹ احمد مطابق ۲۸/۲۹/۱۹۴۰ء نومبر کوئونج (گوڑگاؤں)

(۱) پرانے چراغ، حصہ دوم، ص: ۲۸

(۲) تجیعیۃ العلماء کے صدر حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی تھے، اور کاغریں کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور دونوں کے اشتراک میں سے آزادی ہند کی تحریک چل رہی تھی، جو ملک کو شہیم سے روک کر برطانوی استعمار سے آزاد کرنا چاہتی تھی، ان ملاقاتوں اور پروگراموں میں شرکت سے دونوں کا خصوصی تعلق ظاہر ہوتا ہے) (جمود)

(۳) پرانے چراغ، حصہ دوم، ص: ۵۰

میں ایک عظیم الشان تبلیغی جلسہ ہوا، میوات کی سرزین نے انسانوں کا اتنا بڑا اجتماع ایک چکہ کھی نہیں دیکھا تھا، شرکاء جلسہ کی تعداد کا تخفیقی اندازہ ۲۰-۲۵ ہزار کیا جاتا تھا، ان شرکاء میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو ۳۰، ۳۰، ۳۰ کوں پیدل چل کر اپنا سامان کندھے پر لاد کر اور اپنا کھانا باندھ کر آئے تھے، خصوصی مہماںوں کی تعداد بھی جو پیروں میوات سے تشریف لائے تھے، اور دونوں وقت مدرسہ میین الاسلام کی مبارت میں پر تکلف کھانا کھاتے تھے، ایک ہزار کے قریب تھی۔

جلسہ کے ویسی شامیانے کے پیچے، مولانا حسین احمد صاحب مدفنی نے جمع کی نماز پڑھائی، جامع مسجد میں اور قبیلے کی تقریباً سب مسجدوں میں نماز ہوئی، پھر بھی یہ جوم اتنا تھا کہ پھتوں اور بالاخانوں پر آدمی ہی آدمی تھے، مرنکوں پر بھی نمازوں کی صیفی تھیں، اور آمد و رفت بند ہو گئی تھی، نماز اور جلسہ شروع ہوا، پھر سے رات تک اجلاس ہوتے تھے، لیکن نہ کوئی صدر جلسہ تھا، نہ مجلس استقبالیہ، اور صدر استقبالیہ، نہ رضا کارہ لیکن تمام انتظامات کوش اسلوبی سے ہو رہے تھے، کام کرنے والوں میں ایسی مستعدی اور فرض شناسی تھی، جو وروپی پوش رضا کاروں کی منتظم جماعتوں میں نہیں دیکھی گئی، اس اجتماع میں ولی کے حواس و خواص اور ہر طبقہ کے حضرات بکثر شریک تھے، خان بہادر حاجی رشید احمد صاحب، حاجی وجیہ الدین صاحب، جناب محمد شفیع صاحب قریشی وغیرہ، حضرات اپنی اپنی کاروں میں تشریف لے گئے، جن سے مہماںوں اور علماء کی آمد و رفت میں بڑی سہولت رہی۔

مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس جلسہ کے متعلق اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ۲۵/سال سے ہر قسم کے مذہبی اور سیاسی جلسوں میں شریک ہو رہا ہوں، لیکن میں نے اس شان کا ایسا بارکت اجتماع آج تک نہیں دیکھا۔ یہ اجتماع اور انسانوں کا یہ جنگل ایک جلسہ سے زیادہ ایک زندہ خانقاہ تھی، دن کے سپاہی رات کے راهب بن جاتے تھے، اور رات کے عبادت گزار دن کے

خدمات گزار نظر آتے تھے ان دنوں چیزوں کا جمع کرنا اس دعوت کے مقاصد میں سے تھا۔<sup>(۱)</sup>

### مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی<sup>ؒ</sup>

مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کو صحابہ کے مقام، ان کے حقوق اور ان کے فضائل و مناقب سے واقف کرنے اور ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے مواعظ کا سلسلہ شروع کیا، جو ہندوستان میں عہدہ مغلیہ کے دور آخیر میں علی الحوم اور نو اپان اودھ کی سلطنت کے اثر سے لکھنؤ اور اس کے اطراف میں علی الخصوص اہل سنت کے ذہنوں، مزاجوں اور ان کے تمدن و معاشرت میں داخل و چاری و ساری ہو گئے تھے، ان مواعظ نے اور اس کے اطراف میں اصلاح و انقلاب کا وہ کام کیا جو ان کے مناظروں نے اور بنا ظراہہ رسائل نے نہیں کیا، جن کی ہندوستان کے سی حلقوں میں وحوم پھی ہوئی ہے، ان کے یہ مواعظ بڑے موثر اور دل پذیر ہوتے، پہنچنے والے الفاظ، سادہ زبان، مفترکی بات، اندر وہی جذبہ غرض کہ

ہر چاڑوں می خیزد بردل می ریزو

کے مصداق، صحابہ کرام کے فضائل و حقوق بیان کرنے کے ساتھ مولانا قرآن مجید کے محفوظ اور غیر محرف ہونے اور اس کے اعجاز پر بھی روشنی ڈالتے، ان کی تقریروں میں فماز کی تبلیغ کا غرض ضرور ہوتا، خدا ہی کو معلوم ہے کہ کتنے بندگان خدا کو ان کے مواعظ سے نفع پہنچا، اور ان کی زندگیاں بدلتیں، کم سے کم ہمارے شہر لکھنؤ میں حضرت سید احمد شہیدؒ کے دور ۱۲۴۷ھ کے بعد ایسی اصلاحی و انقلابی لہنیں آئی، چکمڑی جو مولانا کے معتقدین کا خاص محلہ ہے، چونکہ ہمارے محلہ سے قریب تھا، اور دونوں محلوں میں ایک ہی (قریشی) برداری رہتی تھی، جو مولانا کی خاص طور سے حلقة بگوش اور ان کی تحریک و دعوت میں پیش پیش تھی، اس لیے مجھے ان اثرات کے مطالعہ

(۱) بحوالہ: مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، بعنوان: فوج کا بڑا جلسہ

کرنے اور مولانا کی شخصیت کی دلاؤیزی اور مواعظ دول پذیری سے واقف ہونے کا زیادہ موقع ملا۔

پھر وہ وقت آیا کہ لکھنؤ میں "درج صحابہ" کی تحریک شروع ہوئی، اور ۱۹۳۹ء میں مولانا حسین احمد مدینی (صدر جمیعۃ العلماء) اور شیخ الحدیث صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند اس کی رہنمائی کے لیے لکھنؤ تشریف لائے اور ہمارے ہی مکان پر قیام فرمایا، اس سلسلہ میں مولانا کی بار بار زیارت ہوئی، اس معاملہ میں ان کا سوز دروں، جنہے کامل، اور ان کا استفرار ویکھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کرام کے ذکر اور ایک ایسے ماحول و معاشرہ میں جو مختلف اسباب کی بنا پر ان کے حقیقی مقام سے نا آشنا ہو گیا تھا، اس کو روشن واچاگر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے سوا ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مشغله نہیں۔<sup>(۱)</sup>

### حضرت مولانا عبدالحق اور رائے پوری

مولانا مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجتب و عقیدت، احترام و اعتماد کا غیر معمولی معاملہ تھا، تھیم سے پیشتر اور اس کے بعد بھی مولانا کی تائید و حمایت اور ان کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق و عقیدت کے اظہار کا آپ پر ایسا جوش تھا کہ آپ اس میں کسی لوامة لام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جس مجلس میں مولانا کا کوئی ناقد یا مخالف ہوتا وہاں اور زیادہ جوش کے ساتھ ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے اور ان کے خلوص و مقبولیت کا اعلان فرماتے، ایک مرتبہ کسی ایسے ہی موقع پر جب یہاں پیش بھی حاضر تھا اور شاید کچھ مخالفین بھی تھے بڑے جوش کے ساتھ فرمایا: ان کے مخالفین ذرا ان کے چہرہ کو بھی دیکھیں، اور اپنے چہرہ کو بھی، ایک مرتبہ بعض آنے والوں نے مولانا کے سیاسی مسئلک اور ان کے سیاسی انتہا ک پر کچھ اختر اخی کیا یا اپنے تجہب کا اظہار کیا تو فرمایا کہ "اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں ان کے سفروں میں خاوم کی طرح ان کے ساتھ رہتا

(۱) بحوالہ پرانے چارخ، حصہ دوم، ص: ۱۹۲-۱۹۳، طبع جدید

اور ان کی ادنی ادنی خدمتیں انجام دیتا۔

مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے ساتھ جو معاملہ تھا اور آپ کے دل میں حضرت کی جو محبت و عزت تھی اس کا اندازہ اس واقعہ سے تکمیل جو حضرت مولانا عبدالقادر صاحبؒ کے ایک خادم مولوی مقبول احمد صاحب (ساکن ملیان، حال مدرس جامعہ روشنیدیہ شنگری) نے سنایا، وہ فرماتے ہیں:

”۱۰/ صفر ۱۹۲۷ء میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنا تھا، مارچ ۱۹۲۸ء کے اوائل میں اچانک حضرت رائے پوری کا والا نامہ جو مولانا جیب الرحمن ساحب (ومسلم) کے قلم سے تھا موصول ہوا، جس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے احقر سے حضرت مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا پروگرام معلوم کیا تھا کہ آیا حضرت مدینی رحمۃ اللہ علیہ اس جمود کو دیوبند میں مقیم ہوں گے یا سفر کا ارادہ ہے؟ حضرت رائے پوریؒ نے بھی یہ تحریر فرمایا کہ اپنے طور پر تحقیق کر کے جواب لکھیں، احقر عصر کے بعد حسب معمول حضرت مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر حاضر ہوا، قبل مغرب جب مجلس برخاست ہوئی تو احقر نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت اس جمود کو قیام ہو گایا سفر کا نظام ہے؟ حضرت نے فرمایا: کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے عرض کیا: حضرت ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، پس کر فرمانے لے گے کہ میں آئی ڈی تو نہیں ہو، میں بہت گھبرا یا، میں نے اپنے جان بچانے کے لیے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب گرامی پیش کر دیا، حضرت مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا اور بوسدے کر پیشانی پر لگایا اور فرمایا کہ اس کا جواب میں خود تحریر کر دوں گا، اب مجھے اور تشویش ہوئی کہ حضرت رائے پوری خیال فرمائیں گے کہ مقبول رازداری سے کام نہ لے سکا، اور اس خدشہ کو حضرت مدینی کے سامنے بھی پیش کر دیا، حضرت نے از راہ شفقت

فرمایا کہ اچھا تحریر کر دو کہ اس جمعہ کو انشاء اللہ قیام ہی ہوگا، اور مجھ سے فرمائے لگئے کہ جانا بھی ہوگا تو نہیں جاؤں گا، جواب تحریر کر دیا گیا، اور حضرت جمیلؑ کی صبح کو دیوبند تشریف فرمائی ہے اور اسی دن شام کی گاڑی پر سہارپور واپسی ہو گئی۔<sup>(۱)</sup>

بارہ اس کی نوبت آئی کہ حضرت مدینی کا کہیں سفر طے ہوا، پھر کسی وجہ سے اس کا التوا ہو گیا، آپ سہارپور تشریف لائے اور حضرت شیخ الحدیث سے فرمایا کہ اتفاق سے یہ دن خالی ہو گیا ہے، چلو رائے پور ہو آئیں، شیخ فرماتے ہیں کہ دسیوں مرتبہ ایسا ہوا۔<sup>(۲)</sup>

### شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کانڈھلویؒ

شیخ فرماتے ہیں: میں نے اپنے اکابر میں بہت بے تابی سے رونے والا حضرت مدینی قدس سرہ اور اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا۔<sup>(۳)</sup>

شیخ کا عقد ٹانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی صاحبزادی مولانا محمد یوسف صاحب کی ہمشیرہ عطیہ صاحبہ سے ہوا، حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی کو معلوم ہوا، تو پیغام بھیجا کہ نکاح میں ہی پڑھوں گا، چنانچہ ولی تشریف لائے، اور بعد نماز جمعہ نکاح پڑھایا۔<sup>(۴)</sup>

شیخ کا ایک قدیم معمول اہم واقعہات و حادثات، وفیات اور اپنے بزرگوں، احباب اور مخصوص خدام کی آمد و رفت، دور و سیر، نقل و حرکت کے قلم بندر کرنے کا بھی تھا، جس کی حیثیت ایک مکمل و مفصل روزنامہ کی اسی ہے، اس روزنامہ میں قری و ششی

(۱) مکتوپ مولوی مقبول احمد صاحب، جامعہ شیدی یہ شکمیری

(۲) سوانح رائے پوری، ج: ۵-۳۰۵-۳۰۷

(۳) سوانح شیخ الحدیث، از: مولانا علی میان ندوی، ج: ۷۷

(۴) بحوالہ سابق، ج: ۲۷

سند و مہینہ اور تاریخ کی تیڈ کے ساتھ گرد و پیش کے اہم واقعات درج ہیں، اسی کی مدد سے حضرت مولانا محمد الیاس<sup>ؒ</sup>، حضرت رائے پوری اور سب سے پڑھ کر مولانا محمد یوسف صاحب کی سوانح مرتب ہو سکی، مولانا مدنی سے متعلق بھی اس میں بہت معلومات و اندراجات ہیں۔ (۱)

شیخ کو سفروں سے صرف عدم مناسبت ہی نہ تھی، بلکہ ایک طرح سے وحشت واخطراب ہوتا تھا، جو بچپن سے لے کر جوانی تک کی تربیت اور حالات کا تیجہ تھا، اور شاید اللہ تعالیٰ کو ان سے تصنیف و تالیف اور ارشاد و تربیت کا جو کام لیتا تھا، اس کی حکمت و مصلحت کا بھی تقاضہ تھا کہ ان کو یکسوئی کے ساتھ کام کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، لیکن اس عزلت پسندی، یکسوئی کے ساتھ جوان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، مولانا مدنی، مولانا رائے پوری، اور مولانا محمد یوسف<sup>ؒ</sup> کے ساتھ جوان کا خلیع سہاران پور، میرٹھ، مظفر گر، مراد آباد، بریلی، میوات کے چھوٹے چھوٹے سفران حضرات کی رفاقت اہم مدارس کے جلسوں، اور تبلیغی اجتماعات کی شرکت کے لیے وقف فتاویٰ کرنے پڑتے تھے۔ (۲)

شیخ کو پے در پے ایسے عکین و جان گداز حادث و سانحات پیش آئے، جو طبیعت کو مستقل طور پر پڑھ رہا، پشت کو خم کر دینے اور سینے کو واغ واغ بنا دینے کے لیے کافی تھے، شعبان ۱۳۹۲ھ کو اچاک عزیز نواسہ مولوی محمد ہارون کے انتقال کا واقعہ پیش آیا، جوان کے ہی چشم و چراغ تھے، اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی بھی واحد یادگار، اس جوان سال اور ہنہار نواسہ کی وفات کی خبر شیخ کو کہہ معظمہ میں ہوئی، اس موقع پر راقم سطور نے شیخ کو جو تعزیت نامہ لکھا اس کے جواب میں شیخ کا جوگرای نامہ آیا اس کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

”مولانا! صدمات بہت اٹھاچکا، اب طبیعت ایسی بے حس ہو گئی کہ خوشی اور رنج دونوں ہی چیزیں میرے لیے صنوئی ہی رہ گئیں، لکی لا تأسوا

علیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم ” کی ہی کیفیت ہو گئی، حضرت سہارپوری، پھر چچا جان، پھر حضرت مدفنی، حضرت رائے پوری، اور آخر میں عزیز یوسف مر جوم نے کچھ سیمنٹ کا ساپلاسٹر ایسا کر دیا کہ رنج و خوشی دونوں چیزیں وقتی میں رہ گئیں، جب والی یا سہارپور سے کوئی خط وہاں کے متاثرین کے تعلق سننے میں آتا ہے تو ایک دم دو چار آنسو میرے بھی تکال ہی دیتا ہے، ویسے ہر وقت بھر اللہ کوئی احساس نہیں ہوتا۔

ان حادث و سانحات میں ۱۹۷۲ء میں تشیم ہند اور اس سے پیدا ہونے والی صورت حال کو بھی شامل کرنا چاہیے، جس سے شیخ کو والی کے قیام میں بلا واسطہ سابقہ پڑا، اس فتنہ پر آشوب کی وجہ سے تقریباً چار ماہ تک شیخ نظام الدین میں گویا محبوب رہے، ۱۱ محرم الحرام ۱۳۷۲ھ کو مولانا مدفنی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے اور حضرت رائے پوری رائے پور سے سہارپور تشریف لائے اور وہ تاریخی بلکہ تاریخ ساز مشورہ ہوا جس کے نتیجہ میں نہ صرف ان تین حضرات نے ہندوستان میں قیام کا فیصلہ کیا بلکہ شلن سہارپور، میرٹھ اور پورے مغربی یوپی کے علاقے کے مسلمان جمیر ہے۔<sup>(۱)</sup>

حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدفنی کے ساتھ ان کو جو خصوصی تعلق و محبت اور اسی کے ساتھ حکیم الامم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ساتھ ان کی جو عقیدت و عظمت اس پورے دور اختلاف میں رہی وہ کسی جاننے والے سے پوچھیدہ نہیں، ان کی تصنیف ”الاعتداں فی مراتب الرجال“ ان کے اس ذوق، اس جامعیت اور اس توسط و اعتدال کا آئینہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اور جس نے بارہاں دیتی گروہوں میں جو سب کے سب ایک ہی مرکز وایک ہی مسلک سے والستہ تھے، وصل و اتحاد کا بہت کام انجام دیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ مختلف مذاق کے لوگ اور

(۱) بحوالہ سابق، جس: ۱۱۹

مختلف مشائخ سے تعلق رکھنے والے ائمہ علمی و عملی مشکلات کی الجھنوں کے موقعوں پر  
فیصلوں جن ملتا۔ (۱)

حضرت شیخ باوجود اپنے بلند روحانی مقام، اور مرجن خلاق ہونے کے اپنے اہل  
تعلیٰ کو اپنے وقت کے مستند مسلم مشائخ باخصوص شیخ وقت حضرت مولانا عبد القادر  
رائے پوری کی طرف اصرار و تاکید سے متوجہ فرماتے رہتے تھے، اور اس سے ان کی  
اللہیت، بے نقصی اور خلوص کا پورا اظہار ہوتا ہے، اس بار بار کہتا کیا کی وجہ یہ تھی کہ شیخ  
تمام دینی و علمی و اصلاحی کاموں اور خود دعوت و تبلیغ کے لیے اخلاص و للہیت، حیات قلبی  
اور حرارت بالطفی کو ضروری سمجھتے تھے، جوان کے نزدیک بمنزلہ اشیم کے تھی، جس کے  
بغیر دین کی کوئی گاڑی چلتی نہیں، بڑے اہتمام سے شیخ کا یہ مشورہ صرف اپنے خودوں  
اور نیازمندوں ہی کے لیے نہیں تھا، خود بھی بڑے اہتمام سے رائے پور حاضر ہوئے،  
اور کئی کئی دن اور کئی کئی وقت رہتے۔

بھی حال حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی کی تشریف آوری کے موقع پر تھا کہ  
اطلاع ملنے پر رات کو جاگ کر اپشن پر تشریف لے جاتے، اور وہ اہتمام و احترام  
فرماتے جو مشائخ کے ساتھ ہوا کرتا ہے، مولانا کے قیام دیوبند کے زمانہ میں بھی وقتا  
فوقاً وہ تشریف لے جاتے، اور ملاقات کرتے۔ (۲)

ایک موقع پر شیخ نے فرمایا:

رنگ لاتی ہے حتا پھر پر گڑ جانے کے بعد

یہ ترمیم فرمائی ہے، کھس جانے کے بجائے رگڑ جانے سے، کہ حتا (ہندی) کی  
پتی جب رگڑ جاتی ہے تو وہ رگڑن بنادیتی ہے، اور اگر بغیر رگڑے ہوئے اسی کے پتے  
رکھ دیئے جائیں تو کچھ نہ ہوگا، حضرت مدینی فرماتے تھے کہ مسجد اجابت میں میں ذکر  
کرتا تھا، جی چاہتا تھا کہ اس کی دیواروں سے سر پھوٹ لوں۔ (۳)

(۱) حوالہ سابق، ص: ۲۱۸-۱۹۹ (۲) ایضاً ص: ۲۱۵-۲۱۷ (۳) محفوظ شیخ بحوالہ سابق، ص: ۲۵۹

## مولانا شاہ مجدد یعقوب مجددی بھوپالی

حضرت مولانا شاہ مجدد یعقوب مجددیؒ نے فرمایا:

”مولانا حسین احمد مدینی بھوپال تشریف لائے ہوئے تھے، تین روز کا قیام تھا، میاں (بڑے صاحبزادے مولوی محمد سعید صاحب) اور ان کے ماموں خانقاہ تشریف لانے کی دعوت دینے کے لیے گئے، مولانا نے محدث فرمادی کہ سب اوقات گر چکے ہیں، اب کوئی وقت باقی نہیں ہے، دونوں ناکام واپس آگئے، میں نے کہا: تم بچے ہو، ابھی تمہیں کہنا نہیں آیا، میں لگایا، حضرت آرام فرمادی ہے تھے، مجھے دیکھ کر اٹھنے کے، میں نے کہا: نہیں، آپ آرام فرمائیے، مجھے صرف ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں دریافت کرتا ہوں کہ ایک شخص نے مسجد بنائی، وہ دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اندر آنے والوں کو روکتا ہے، مولانا نے فرمایا کہ جب وہ مسجد بنانچکا اور وقف کر چکا تو اب اس کو کیا حق ہے؟ میں نے کہا: آپ بھی مسجد ہیں، آپ نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اب جو چاہے آپ سے فائدہ اٹھائے، فرمایا: میں ضرور آؤں گا، لیکن کھانے کے بجائے چائے پر اکتفا کریں، میں نے عرض کیا کہ مجھے تو دوسرا ہی فائدہ اٹھانا ہے، میں پانی پلا کر رخصت کر دوں گا، چنانچہ تشریف لائے، میں نے نظر پہنچا کر ان کی جو تیار سیدھی کیں کہ عالموں کا احترام اللہ رسول کی محبت کی دلیل ہے، اور وہ تو حدیث نبوی کے تھے، دیرات تک حدیث کا درس دیتے تھے، اہل دنیا کو حال یہ ہے کہ ان کی حفل میں کھلماں مجھ جاتی ہے، اور کوئی دین دار آتا ہے تو کسی کی توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں۔ (۱)

مولانا سید طلحہ حشمتیؒ

مولانا سید طلحہ حشمتیؒ بُونگی بُرگان دیوبند کے اخلاص و لیہیت کے بڑے قائل و

(۱) حجتۃ بالدلیل، ج ۲، ص ۲۰۳-۲۰۴

معترف تھے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن ساہب کا بڑے بلند الفاظ میں تذکرہ کرتے تھے، مولانا سید حسین احمد مدینی سے جو لکھنؤ میں بیپشہڈا کٹر سید عبدالعلی صاحب مرحوم کے بیان قیام فرماتے تھے اور اس تقریب سے اکثر مولانا سید طلحہ صاحب سے صحبت و مجلس رہتی تھی، بڑی عقیدت و تواضع سے ملتے اور مولانا اکثر ان سے مزاج فرماتے۔<sup>(۱)</sup>

(۱) پرانے چارائی حصہ اول، ص: ۳۴۰۔

مولانا سید طلحہ حنفی ٹوکی امیر المؤمنین حضرت سید احمد شہیدؒ کے بھانج سید محمد علی مرحوم صاحب مخزن احمدی کی اولاد میں ایک باکمال صاحب علم و فضل فرد تھے، مولانا ذاکر سید عبدالعلی حنفیؒ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے پھوپھا اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اور ان کے بعد کی ایک پوری جیل کے معلم و مرتبی تھے، اور نیٹل کانچ لاہور میں پروفیسر ہے اور لاہور کے قیام میں علامہ اقبال اور حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کے ساتھ اچھی صحیحیں اور جگہیں رہیں، اور لکھنؤ کے قیام میں حضرت مدینی سے مناسبت اور عقیدت و محبت کا تعلق برداھا۔ تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ ہو: پرانے چارائی جلد اول۔ (محفوظ)

## ممتاز اصحاب علم و فضل کا تعلق بیعت واردات

مولانا عبدالباری ندوی<sup>ؒ</sup>، مولانا عبدالمجید دریابادی<sup>ؒ</sup> اور ڈاکٹر سید عبدالحق حسینی

مولانا عبدالباری صاحب و برادر معظم ڈاکٹر سید عبدالحق صاحب میں بڑے گھرے روابط و تعلقات تھے، دونوں میں کئی یا تین مشترک تھیں اور یہی مناسبت و تحداد کا ہمیشہ سے قوی ذریعہ رہا ہے، دونوں معاملات اور حقوق العواد میں بہت مختاط اور ذکری الحسن واقع ہوئے تھے، دونوں مظاہر و اشکال اور لوگوں کی تعریف و تقدیم سے بے نیاز ہو کر شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور فرائض، نفلی عبادات اور حکمیلی چیزوں پر ترجیح دیتے تھے، دونوں طبعاً و مزاجاً منتظم واقع ہوئے تھے، اور حساب کتاب کے صاف اور اس میں بے تلف کرتے تھے، دونوں مولانا مدنی سے بیعت کا لطف رکھتے تھے، ان مناسقوں اور مشترک نفعیوں کے باوجود تعلیم و تربیت، ماحول کے اختلاف اور خاندانی اثرات کی بنا پر دونوں میں بہت سی ماضیاتی خصوصیتیں تھیں، اور جن کو خدا نے دوپیدا کیا ہے وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، مولانا عبدالباری صاحب میں ایک حد تک شدت اور بے چک پن تھا، وہ اپنے خلاف مزاج و خلاف اصول کی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے ان کے چھوٹے اکثر ان سے خائف اور ان سے دور رہتے تھے، اور گھر کے کم افراد ان کے معیار پر پورے اترتے تھے، ان کی اسی مزاجی خصوصیت کو مولانا مدنی نے ایک مرتبہ اس بلیغ جملہ میں ادا کیا کہ "مولانا عبدالباری

چاہتے ہیں کہ شیطان مر جائے اور ایسا ممکن نہیں،<sup>(۱)</sup>

ان کی بیعت اصلًا مولانا حسین احمد صاحب مدفن سے تھی، اپنے رفیق خاص اور ہم سفر و ہم مذاق مولانا عبدالمajid صاحب دریابادی مرحوم کے مقابلہ میں مولانا کو یہ انتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے شیخ بیعت مولانا مدفن اور شیخ صحبت و تربیت مولانا تھانوی<sup>(۲)</sup> کے تعلق کو زیادہ جامعیت و توازن کے ساتھ قائم رکھا اور مولانا تھانوی کی پوری عقیدت اور قنی و ذوقی مناسبت کے ساتھ مولانا مدفن کی عقیدت و عظمت میں فرق نہیں آنے دیا، ان کے متعلق یہ مصروف پڑھا جا سکتا ہے عیوں کیسے کس نے بھم سا غر و سند ال دونوں؟

اسی بنا پر مولانا مدفن کی کوئی بھی کبھی رات گزارتے اور بڑے مندرجہ رہتے، مجھے بھی ایک دوبار اس کا ایضاً ہوا ہے، مجھ کی آم خوری کی مجلس، محفل چمن میں چھوڑ رہ پڑست، شیخ وقت کی موجودگی، اور ایک چیزیدہ و بُرگزیدہ مجھ اور اس کی شستہ و شاستہ گفتگو بھولئے والی چیزیں۔<sup>(۳)</sup>

..... چب مولانا عبدالمajid صاحب نے مولانا حسین احمد مدفن سے بیعت و استرشاد کا تعلق پیدا کیا، میرے بڑے بھائی صاحب نے بھی اسی زمانہ میں مولانا سے تعلق پیدا کیا اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کا گھر لکھنؤ میں مولانا کی مستقل فروغگاه بن

(۱) پرانے چاراغ، حصہ دوم، ص: ۱۱۲

(۲) ان ارواح ملکیت مولانا عبدالمباری ندوی، مولانا عبدالمajid دریابادی اور ڈاکٹر سید عبد العلی حسni میں فرق یہ تھا کہ اول الذکر دونوں پر رُگ حضرت مدفن کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے اور وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کی خدمت میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن حضرت تھانوی نے بیعت کے لیے تو مولانا مدفن کو کہا اور تربیت کے لیے خود رضا مندی ظاہر کی، اور اسی پر عمل ہوا، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو راقم کی کتاب حیات عبدالمباری، مطبوعہ مجلس صحافظت و تشریفات، ندوۃ العلماء لکھنؤ، الہبیت مولانا ڈاکٹر سید عبد العلی (سابق ناظم ندوۃ العلماء) کا تعلق تھانوی مذاق کے باوجود کمل طور پر حضرت مولانا سید حسین احمد مدفن سے رہا۔ (مجموعہ)

(۳) پرانے چاراغ، حصہ دوم، ص: ۱۰۸-۱۰۷

گیا، اس جدید روحانی رشتہ سے مولانا عبدالماجد صاحب اور مولانا عبدالباری صاحب ندوی کی جلد از جلد زیارت ہونے لگی۔ (۱)

## مولانا محمد اولیس نگرائی ندوی<sup>۲</sup>

..... جس دن سے مولانا سید حسین احمد مدینی کا قیام ہمارے مکان واقع گوئی روڈ ہونے لگا، مولانا محمد اولیس صاحب (نگرائی ندوی) نے جلد ہی حضرت مولانا سے اصلاح و تربیت کا تعلق پیدا کر لیا اور بالآخر وہ اجازت سے مشرف ہوئے۔ (۲).

مولانا (نگرائی) اگرچہ تمام تواریخ العلوم ندوۃ العلماء کے تعلیم یافتہ اور سلوک و تربیت میں مولانا سید حسین احمد مدینی کے وست گرفتہ اور ان کے دامن سے وابستہ تھے، اپنے سیاسی خیالات و مسلک میں بھی انہیں کے قیح تھے، لیکن ان کے اندر تنگ نظری، اور جماعتی عصیت شہقی، وہ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی کے بڑے معتقد اور ان کی اصلاحی و تربیتی کوشش اور ان کے نتائج کے بڑے قائل اور معترف تھے، لکھنؤ کے قیام میں ان کی مجلس میں نیاز منداشہ اور معتقدانہ حاضر ہوتے ان سے مراسلت بھی رہی تھی، حضرت کے متعدد خلفاء سے ان کے بڑے گھرے تعلقات تھے، مولانا ہی کے ایک مستر شد مولانا نجم احسن صاحب جو عرصہ تک پرتا گئدھ میں رہے، ان کے عزیز قریب اور ہم زلف تھے، مولانا کے مستر شدین میں مولانا عبدالماجد صاحب دریابادی، مولانا عبدالباری ندوی اور مولانا سید سلیمان ندوی تو ان کے حبوب استاد اور مرتبی ہی تھے، حضرت مولانا عبدالقدار صاحب رائے پوری جب لکھنؤ تشریف لاتے اور واریع العلوم اور لکھنؤ کے تبلیغی مرکز میں ہفتوں قیام کرتے تو مولانا کو اس اہتمام اور پابندی سے ان کی مجلس میں شریک ہوتے دیکھا کردیکھنے والا ان کو ان کا مرید رشید ہی سمجھتا، حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب سے ان کو گھری حقیقت تھی، اور شیخ کو بھی ان سے تعلق خاطر تھا، ان کی وفات پر حضرت نے اپنے

(۱) پرانے چانغ، حصہ دوم، ص: ۱۳۰ (۲) پرانے چانغ، حصہ دوم، ص: ۲۲۳

گھرے رنج و تاثر کا اظہار کیا۔ (۱)

## مولانا نسیم احمد فریدی امر و ہوئی

مولانا نسیم احمد فریدی امر و ہوئی کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا علمی ذوق اور علم میں فناستیت ہے، علم سے ان کو وہی تعلق تھا جو بھلی کو پانی سے ہوتا ہے، علمی اشتغال رکھنے والے، تصنیف و تحقیق کرنے والے بہت سے مل جائیں گے، لیکن ایسے لوگ جو علم میں فنا ہوں، علم جس کا ذوق ہی نہیں بلکہ ذات اللہ بن چکا ہے، علم ہی ان کے لیے فدا اور شفا سب کچھ ہو، وہ مولانا نسیم احمد فریدی تھے، فریدی صاحب مر حوم کی دوسری خصوصیت ان کی سادگی، تواضع، فروتنی اور اخلاق ہے، مولانا مر حوم اتنی سادگی سے رہتے تھے کہ اجنبی آدمی و یکھ کر بالکل نہیں سمجھ سکتا کہ وہ بڑے عالم و مصنف ہیں، ہر شخص سے بہت تواضع و اخلاق سے ملتے تھے، موصوف شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدینی کے شاگرد اور مستر شد، فرید و مجاز تھے، مولانا سے انہیں بڑی عقیدت و شیشکی تھی۔ (۲)

(۱) پرانے چراغ، حصہ دوم، ص: ۲۲۹-۲۳۰، (۲) پرانے چراغ، حصہ سوم: ۲۱۹-۲۲۰  
حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی قدس سرہ کے خلفاء و جازین کی فہرست پر تنظیر ڈائیٹ سے ۱۶۶ کی تعداد اظہار ہوتی ہے، اور پہاڑا جاڑت خلافات ۱۷ اوال نام ان کے خلف اکبر مولانا سید احمد مدینی کا نام مولانا فرید احمدی صاحب نے اپنی کتاب ”شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدینی“ میں صفحہ ۸۳۳ پر ذکر کیا ہے۔ یہ حضرت مدینی کے ذکر کو پر سب سے فہیم اور مبسوط و مفصل سوانح ہے، جس میں حضرت مولانا سید ابو احسن علی ندوی کا تفصیلی مقدمہ ہے، اور کتاب ۸۸۵ صفحات پر مشتمل ہے۔ (مجموعہ)

## ضمیمه

# شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی سوائی خاکہ

حضرت شاہ سید نصیر الحسینی صاحب علیہ الرحمہ

(۱۹۳۳ء-۲۰۰۸ء)

(خانقاہ حضرت سید احمد شہید، لاہور)

شیخ العرب والجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی نور اللہ مرقدہ کی نابغہ روزگار  
শিষ্যত පର୍ଚିଶିରପାକ ଓ ହିନ୍ଦକା ଆଶାର, ମାଲମ ଇସଲାମି କାମର ମାଧ୍ୟମର ବିନାଶ ହେ, ଏଣ କି ଉତ୍ସମତ କା  
ଆଫାବ ଯୋମ କୀମତ ତକ ଅନ୍ତିମ ଦିନର ଜଗତକାନ୍ତର ହେବା, ଏତିମିଳିଲି ମିଳିଲି ମିଳିଲି ମିଳିଲି  
କିଆ ଜାରି ହେତା କାହାକି ଏକ ନୋଟରି ମିଳିଲି ଏଥିଲା ଉତ୍ସମତ କାନ୍ଦାରା କିଆ ଜାଇବି:

# شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدینی

ولادت باسعاوٽ ۱۹/شوال ۱۲۹۶ھ

اوائل صفر ۱۳۰۹ھ:- دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔

۱۳۱۳ھ:- مولانا حافظ محمد احمد صاحب خلف الصدق حضرت مولانا محمد قاسم

نافتوی رحمہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کے ہمیں مقرر ہوئے، اور تاحیات یعنی ۱۳۲۴ھ تک عہدہ اہتمام پر رونق افروز ہے۔

۱۳۲۶ھ:- از ۱۳۰۹ھ تا ۱۳۱۶ھ دیوبند میں تعلیم حاصل کی، ۱۳۱۶ھ میں والد ماجد رحمہ اللہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کی، حضرت اقدس قطب العالم مولانا شید احمد محمد شاگھوہی قدس سرہ سے بیعت کا شرف حاصل ہوا، ۱۴۲۲ھ / ۲۵ ذی قعده ۱۳۱۶ھ کو کہ معلم پہنچ، طواف قدوم سے فارغ ہو کر قطب عالم حضرت مولانا الحاج امداد اللہ قانونی قدس سرہ کی پارگاہ عالی میں حاضری کا شرف حاصل کیا، ۱۴۲۵ھ / ۲۶ ذی الحجه کو مدینہ منورہ روانگی ہوئی۔

۱۳۲۷ھ:- محرم الحرام کی ابتدائی تاریخوں میں مدینہ منورہ میں شرف حضور حاصل ہوا، دیوبند سے رخصت ہونے کے وقت حضرت شیخ الہند نے پر زور طریقہ پر ہدایت فرمائی تھی کہ پڑھنا ہر گز نہ چھوڑنا چاہیے ایک دو طالب علم ہی ہوں چنانچہ مدینہ منورہ میں آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔

۱۳۲۸ھ:- شوال ۸ ۱۳۲۷ھ تک ابتدائی کتابیں مختلف فنون کی دو دو چار طالب علوم کو پڑھاتے رہے، ذی قعده میں ۱۳۲۸ھ میں حضرت قطب عالم مولانا شید احمد شاگھ شاگھوہی قدس سرہ کے ارشاد کے مطابق گلگوہ شریف کا سفر کیا۔

۱۳۲۹ھ:- میں ہندوستان سے واپس مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت سے سلسلہ تعلیم بڑے پیاسہ پر چاری ہوا تو مدینہ طیبہ کے مدرسہ میں ملازمت، خارج از مدرسہ اوقات میں حرم نبوی میں کتابوں کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا، صحیح کی نماز کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، بلکہ عشاء کے بعد بھی مختلف علوم و فنون کی کتابیں شروع کراؤں۔

۱۳۳۰ھ:- قطب الارشاد حضرت مولانا شید احمد شاگھ شاگھوہی کا وصال۔

۱۳۳۲ھ:- مولوی احمد رضا خاں کا فتنہ، حسام الحرمین۔

۱۳۳۶ھ:- سہلی اطیبیہ کا انتقال۔

۱۳۴۷ھ:- دارالعلوم کا جلسہ دستار بندی (۱۷/۱۸/۱۹۱۰ء)۔

۱۳۴۷ھ:- حضرت کی دستار بندی۔

۱۳۴۷ھ:- والدہ ماجدہ کا انتقال۔

۱۳۴۷ھ:- ہندوستان سے واپسی چاڑی۔

۱۳۴۷ھ:- ابتدائے سال میں چاڑی سے تیسرا سفر ہندوستان، اوآخر سال میں

واپسی مدینہ منورہ، تیسرا مرتبہ۔

۱۳۴۷ھ- ۱۳۴۸ھ:- میں حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا خلیل احمد قدس سرہ چاڑی تشریف لے گئے، شریف حسین حاکم کہ نے ترکی حکومت کے خلاف انگریزوں سے مل کر بغاوت کروی، شیخ الہند رحمہ اللہ کے مدینہ منورہ سے روانگی کہ مکرمہ کے بعد حضرت مدینی کے والد ماجد اور بھائیوں سید احمد صاحب اور سید محمود صاحب کی گرفتاری اپنے پابندی میں ان کی نظر بندی، والد ماجد ذات الجلب میں بٹلا ہو کر ایک ما بعد وفات پا گئے۔ (اناللہ وانا الیہ راجحون) وہیں مدفون ہوئے۔

غازی انور پاشا اور غازی بمال پاشا کا ڈر راجحیف چاڑی صدر و چاڑی سے حضرت شیخ الہند کی مدینہ منورہ میں ملاقات۔

۱۳۴۸ھ:- کہ مکرمہ میں حضرت شیخ الہند اور ان کے رفقاء کی گرفتاری پہلے جدہ اور پھر ۱۸/ ربیع الاول ۱۳۴۸ھ مطابق ۱۲/ جنوری ۱۹۱۰ء کو مصر روانہ کئے گئے، حضرت مدینی بھی ساتھ تھے، سیاسی قید خانہ میں رکھے گئے گئے ۲۲/ ربیع الثانی ۱۳۴۸ھ کو یہ تمام حضرات شیخ الہند، حضرت مدینی، حضرت مولانا عزیز گل، مولانا حکیم نصرت حسین اور مولانا وحید احمد مدینی مالا روانہ کر دیئے گئے، ۲۹/ ربیع الثانی کو جزیرہ مالا میں پہنچ گئے، تقریباً تین سال وہاں قید رہے۔

۱۳۴۸ھ:- قطب عالم حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم راپوری قدس سرہ کی وفات۔

۱۳۴۸ھ:- ۲۲/ جمادی الثانی کو رہائی ملی جس وقت ہندوستان تشریف لائے

اس وقت تحریک خلافت زور دل پر ٹھی، جو مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری، مولانا محمد علی و شوکت علی کی قیادت میں تحریک آزادی جاری تھی، ..... تحریک ترک موالات کا آغاز، شیخ الاسلام جامع مسجد امر وہی کی صدر مری، شیخ الہند نے اپنے پاس بلالیا، کلکتہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلیمی ادارے میں تقرر۔

۹۔ ۱۳۲۹ھ:- شیخ الہند کی شدید علامت اور ۱۸/ رقق الاول ۱۳۲۹ھ کو دہلی میں

ڈاکٹر انصاری صاحب کے مکان پر وفات۔ انالذ و انالیہ راجعون  
سیاسی اجتماعات میں شرکت، مولوی بازار کلکتہ، ضلع ناگپور کے عظیم الشان جلسے ہائے خلافت و جمیعت کی صدارت، سیپوہارہ ضلع بجور میں جمیعت و خلافت اور کاغزیں کے عظیم جلسے ساتھ ساتھ ہوئے تو خلافت کے جلسے کی صدارت کے لیے آپ ہی کو منتخب کیا گیا، مظاہر علوم سہارپور کے جلسے میں شرکت، کراچی کے مشہور جلسے میں شرکت، مسلسل اسفار اور سیاسی مصروفیات کے باعث آپ سے کلکتہ کی ملازمت بھروسہ سکی، اور وہاں سے معاملہ ختم ہو گیا، ۱-۲-۳/ ذی قعده ۱۳۲۹ھ / ۸-۹-۱۰/ جولائی ۱۹۲۱ء کراچی میں خلافت کمیٹی کے عظیم الشان جلسے جن میں مولانا محمد علی و مولانا شوکت بھی شریک تھے۔ شیخ الاسلام کی تجویز کہ انگریزوں کی فوج میں ملازم رہنا، بھرتی ہونا یا اس کی دوسری کوتیر غیب دینا حرام ہے۔

۱۰۔ ۱۳۲۹ھ (۱۹۲۱ء): - حضرت شیخ الاسلام مدینی، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور ڈاکٹر پکلو کے وارث گرفتاری ۱۸/ ستمبر ۱۹۲۱ء، ۱۵/ محرم الحرام ۱۳۲۹ھ کو حضرت مدینی کی گرفتاری، ۲۶/ ستمبر سے مقدمہ کی کارروائی شروع، ۲۷/ ستمبر کو مولانا محمد علی کا بیان، مولانا محمد علی کے بیان کے بعد حضرت شیخ الاسلام کا بیان ہوا، ۲۹/ ستمبر کو عدالت میں بیان دیتے ہوئے مولانا محمد علی نے بڑھ کر حضرت مدینی کے قدم چوم لیے، حضرت شیخ الاسلام من رفقاء پیش پرورد۔

۱۱۔ ۱۳۲۱ء (۱۹۲۱ء) کو مقدمہ جوڈیشل کمشن سندھ کی عدالت میں شروع ہوا، ۲۸/

اکتوبر کو حضرت مدنی کا بیان ہوا، کہ اپنی کے زمانہ امارت میں مولانا محمد علی جوہر نے حضرت شیخ الاسلام سے ترجیح قرآن مجید پڑھا، یکم نومبر ۱۹۲۱ء (۱۳۴۰ھ) اس مشہور تاریخی مقدمہ کا فیصلہ، شیخ الاسلام اور آپ کے رفقاء کو وہ وسال قید با مشقت۔

۱۹۲۲ء: - سبتمبر ۱۹۲۲ء میں کونٹاڈا میں جمیعۃ العلماء ہند کا عظیم الشان پانچ ماں اجلاس، حضرت شیخ الاسلام صدارت کے لیے منتخب ہوئے۔

۱۹۲۲ء تا ۱۹۲۴ء: - تک سلہٹ کے جامعہ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے۔

۱۹۲۴ء: - میں حضرت مولانا محمد اور شاہ کشیری صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند اور ان کے رفقاء کے استغفے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے مشورے سے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب ہبھتم دارالعلوم دیوبند اور مگر اداکیں مجلس شوریٰ نے حضرت شیخ الاسلام کو ہبھہ صدارت مدرسی پیش کیا، آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین بن گئے، تحریکات میں شرکت کا سلسلہ جاری رہا، جمیعۃ علماء ہند اور کاغذیں کیا ہر قسم کی جدوجہد میں قائدانہ حصہ۔

۱۹۲۴ء (۱۳۴۳ھ): - میں کاغذیں اور جمیعۃ علماء ہند کی حکومت کے خلاف سنتیہ گرد، آپ جمیعۃ کے ڈکٹیٹر بنائے گئے، آپ کی گرفتاری۔

۱۹۲۶ء (۱۹۳۸ء): - ۸/ جنوری ۱۹۲۶ء کی شب میں حضرت اقدس مدنی نے صدر بازار دہلی متصل پل سنگش میں ایک جلسے میں تقریر فرمائی، جس کا بڑا حصہ چوری کے "تعجی" اور "اصصاری" دہلی میں شائع ہوا، چند روز کے بعد "الامان" اور "وحدت ملی" نے اس تقریر کو قطع و برید کے بعد اپنے صفات میں جگہ دی، ان پر چوں سے "زمین دار" اور "انقلاب" لا ہونے اس تقریر کو لائق کیا اور یہ جملے حضرت اقدس مدنی کی طرف مشوہب کر دیئے کہ حسین احمد دیوبندی نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ چونکہ اس زمانہ میں تو میں اوطان سے بُتی ہیں، مذہب سے نہیں بُتی، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی قومیت کی بنیاد وطن کو بنائیں، اُو کما قال، جب یہ

اخباری اطلاع علامہ اقبال کے کان میں پڑی تو انہوں نے حضرت اقدس سے استفسار یا تحقیق کے بغیر چند اشعار سپرد قلم کر دیئے، ان اشعار کی بناء پر ہندوستان کے علمی اور دینی حلقوں میں ایک ہنگامہ ہو گیا جس کی تفصیل اس زمانے کے روزنا موں اور ہفتہ وار اخباروں سے معلوم ہو سکتی ہے۔

تحقیقت حال معلوم ہونے پر ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اپنے ایک اخباری بیان میں اپنے تقدیمی اشعار سے رجوع فرمایا، لیکن نہ جانے ”ار مخان جاز“ کے مرتبین نے پھر بھی کن مصلحتوں کے تحت وہ اشعار کتاب میں شامل کر لیئے، علامہ کے بعض دوستوں اور ماہرین اقبالیات کی پرائی ہے کہ اگر یہ مجموعہ علامہ مرحوم کی زندگی میں چھپتا تو یہ اشعار اس میں شامل نہ ہوتے، علامہ اقبال مرحوم حضرت اقدس مدفنی کے عقیدت ہندوں میں سے تھے، چنانچہ فرمایا کہ ”مولانا کی حیثت دینی کے احترام میں میں ان کے کسی عقیدت ہند سے پیچھے نہیں ہوں۔“

۱۹۳۱ء:- حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب خرابی محنت کی بناء پر جمیعت العلماء کی صدارت کے لیے تیار ہوئے، حضرت شیخ الاسلام جمیعت العلماء کے صدر منتخب ہوئے۔

۱۹۳۲ء:- جون ۱۹۳۲ء میں خلاف قانون تقریر کے الزام میں گرفتاری، چھ ماہ قید باشقت، پانچ سو روپے جرمانہ، چھ ماہ بید قید میں تو سیع غیر معینہ درت کے لیے نظر بند۔

۱۹۳۳ء:- ۲۲/جنوری ۱۹۳۳ء کو مراد آباد جیل سے ٹینی جیل ال آباد کو منتقلی، اگسٹ ۱۹۳۳ء/ماہ نظر بند، درت اسیری ۲/سال ۲/۱۹۳۳ء کو رہا ہوئے، تحریک آزادی کا شباب، مسلم لیگ اور تحریک پاکستان، ہندوستان شدید ترین سیاسی بحران سے

دو چار۔

ان نازک حالات میں حضرت شیخ الاسلام اور آپ کی جماعت کا موقف یقیناً کہ کوئی ایسا فارمولہ تسلیم نہ کیا جائے جس سے ہندوستان کے کسی مخصوص علاقے کے پاشندوں کو فائدہ پہنچے، اور دیگر حصہ میں ملک کے مسلم پاشندے تباہی اور پربادی کا

شکار ہو جائیں، اس لیے مسئلہ کا حل اس طرح ہونا چاہیے کہ تمام علاقوں کے مسلمان باعزت طریقہ پر رکھیں، کیونکہ تقسیم ملک کی صورت میں مسلم اقلیت کا مسئلہ پرستور الجھار ہے گا، جب کہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیت اس قدر موثر ہوگی کہ وہاں کی مسلم اکثریت ان سے متاثر ہونے پر مجبور ہوگی اور اگر تباہی آبادی کی نوبت آتی ہے تو نہایت تباہی و بربادی کے مناظر سامنے آئیں گے اور چونکہ ہندوستان میں مسلم اقلیت آئی میں نہ کے برابر ہوگی اس لیے قطعاً غیر موثر ہوگی اور یہاں کی اکثریت اپنی من مانی کرنے میں آزاد ہوگی، آپ نے ایک جامع اسکیم پیش فرمائی جو "فارمولہ" کے نام سے مشہور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

۱۔ مسلم اکثریت کے صوبہ دو قین امور کے علاوہ اپنے تمام معاملات میں خود اختار ہوں۔ ۲۔ مرکز کی تکمیل میں ہندو اور مسلم ممبران مساوی، اور دس سیٹیں پس ماندہ طبقوں کے لیے ہوں، اس طرح ہندو اور مسلمان ہر ایک کو  $\frac{1}{25}$  فیصد سیٹیں ملیں، اسی کے ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ ۳۔ کوئی قانون جس کا تعلق مسلمانوں سے ہو گا وہ اس وقت تک پاس نہ ہو سکے جب تک مسلم ممبران کی اکثریت اس کے حق میں نہ ہو اگر یہ فارمولہ اسکیم کر لیا جاتا تو آج تمام ہندوستان مسلمانوں کے لیے پاکستان ہوتا۔

۱۹۷۴ء: - چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی شب کو بر صیری آزاد ہو گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، پاکستان وجود میں آگیا، اس کے بعد حضرت القدس مدنی سیاسی ہنگامہ آرائی سے کنارہ کش ہو گئے، آزادی وطن کے حصول کی راہ میں سب کچھ کرنے اور سب کچھ سنبھل کے باوجود جب زمام حکومت اہل وطن کے ہاتھوں میں آگئی تو کسی مادی منفعت کی طرف لگاہ اٹھائے بغیر خاموشی کے ساتھ میدان سے بہت گئے، صرف یہی نہیں بلکہ آپ نے حکومت ہند کے پیش کردہ خطاب و تمثیل کو شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا، ہندوستان کو آزادی ملنے کے بعد آپ ہمہ تن درس و تدریس، ارشاد و پہلیات اور احیائے سنت رسول اللہ ﷺ میں مشہک ہو گئے، اور جہاد اصغر سے فراخت کے بعد لوگوں کو تادم حیات جہاد

اکبر کا سبق پڑھاتے رہے، آپ نے ملک کے طول و عرض میں پے در پے دورے کئے، اور اپنی تقریروں میں مسلمانان ہند کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی تلقین فرماتے تھے، ہر ماہ رمضان المبارک آپ سلہٹ میں گزارتے تھے۔

**۱۹۷۸ء:** فروری میں آپ نے جمیعت علماء صوبہ بہار کے سالانہ جلسہ مقام سستی پور ضلع درجہنگہ میں شرکت فرمائی، گجرات کے بھی آپ نے پے در پے دورے کئے۔ پور ضلع درجہنگہ میں اپنا آخری سفر حج اختیار کیا، یہ سفر دو ماہ کا ۱۳۲۴ھ-۱۹۵۵ء: میں آپ نے اپنا آخری سفر حج اختیار کیا، یہ سفر دو ماہ کا رہا، مدینہ طیبہ میں چالپس روز قیام رہا۔

**۱۳۲۴ھ-۱۹۵۵ء:** سال کے شروع میں جمیعت العلماء ہند کا انقلاب میں حضرت نے شرکت فرمائی۔

**۱۵ ذی الحجه ۱۳۲۴ھ مطابق ۱/ جولائی ۱۹۵۵ء:** کورس کاسٹر اختیار فرمایا، طبیعت کی ناسازی کی بناء پر تمام چیزیں چھوڑ کر روز جمعہ ۵ محرم ۷ مطابق ۱۳۲۴ھ کو واپس دیوبند شریف لے آئے، اس کے بعد مسلسل بیماری چلتی رہی، اسی دوران میں خانقاہ عالیہ رائے پور میں قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبدالقدوس رائے پوری قدس سرہ کی ملاقات کو شریف لے گئے ایک شب وہاں قیام فرمایا، ۲۸ محرم الحرام ۷ مطابق ۱۳۲۴ھ مطابق ۲۵ اگست ۱۹۵۵ء کو آپ نے اپنی زندگی کا آخری سبق بخاری شریف جلد اول سے پڑھایا۔

**۱۳ جماوی الاولی ۱۳۲۴ھ مطابق ۵ دسمبر ۱۹۵۵ء:** کو علم و عمل اور زہد و تقوی کا یہ آنکاب عالم تاب غروب ہو گیا۔

**۱۹۶۰ء:** کی ابتداء ۱۹۶۰ء تک یعنی کامل ۳۵ سال کا ایک ایک الحجہ تقوی، عبادت، ذکر و فخر، مرافقہ، اشتغال بالله، جہاد فی سبیل اللہ، اعلان حق، مجاہدہ بالباطل، اعلاء کلمۃ اللہ، احیاء دین، ترویج شریعت، اتباع سنت و تبیخ دین، تلقین و ارشاد، درس حدیث و تہذیم قرآن وغیرہ امور میں صرف ہر، جس طرح لاکھوں بیمار آپ کے دم عیسیٰ سے شفایا ب ہوئے، لاکھوں تشنگان علوم ظاہری و باطنی آپ کے دریائے فیض سے سیراب

ہوئے، وہ آج کی دنیا میں آفتاب کی طرح عیاں ہیں۔

تقطیم پر صیر کے بعد حضرت اقدس مدین جس طرح مسلمانان ہند کے لیے دعا گوشے اسی طرح پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے بھی دل کھول کر دعا میں کرتے رہے، لفظ روایت ہے کہ حضرت اقدس مدین سے پاکستان کے بارے میں ایک مقام پرسوال کیا گیا تو فرمایا مسجد کی تعمیر سے پہلے اختلاف کیا جاسکتا ہے کہ چھوٹی بنے یا بڑی، بیہاں بنے یا وہاں بنے، نقشہ یہ ہو یا وہ ہو لیکن جب وہ بن کر تیار ہو جائے تو کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں۔

